

ابن انشاء کا سفر نامہ

# چلتے ہو تو چین کو چلیے





جناب ابن انشاء صاحب!

آپ سے مل کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ آپ نے

چینی نغموں کا ترجمہ کر کے پاک چین دوستی کے لیے

بہت اچھا کام کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ واپس

جانے کے بعد چین کے متعلق کچھ لکھیں گے اور

پاک چین دوستی کو اور استوار کریں۔

پاک چین دوستی زندہ باد!

شان یون

۱۲۵ اپریل

All rights reserved  
©2002-2006

پبلنگ یونیورسٹی

شعبہ زبانان شرقیہ



ہم کیا اور ہمارا جانا کیا۔ جہاز میں بیٹھے اور زمین کی طنائیں کھینچ لیں۔ اندرون چین بھی اڑن کھولے اور دھوئیں کی گاڑی سے واسطہ رہا۔ یہ بھی کوئی سیاحت ہے۔ نہ سر میں گرد نہ پاؤں میں آبلہ۔ سیاحت کا منصب تو مارکو پولو کا تھا، ابن بطوطہ کا تھا۔ صاحبو۔ ان دنوں ایک شخص اٹھتی جوانی میں سیر و سفر پر نکلتا تھا تو واپسی پر، اگر واپسی ہوتی تھی تو اس کے پوتے اس کا استقبال کرتے تھے۔ بعضوں کے تو پچانے والے بھی نہ ملتے تھے۔ کم از کم مارکو پولو کے ساتھ یہی گزری، اور جب اس نے یورپ کے عہد تاریک کے باسیوں کو چین کی چکاچوند کی کہانیاں سنائیں تو لوگوں نے اسے دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے کا خطاب دیا۔

All rights reserved  
©2002-2006

## کیا قافلہ جاتا ہے

ہم نے بہت کوشش کی کہ ہمارے چین جانے کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، لیکن تدبیر کند بندہ تقدیر زند خندہ۔ یہ بات نہیں کہ ہم چھپ چھپا کر بھیس بدل کر بلا پاسپورٹ چین جا رہے تھے، یا مغرب دنیا سے اس امر کو چھپانا مقصود تھا بلکہ محض دوستوں اور ہمسایوں سے تعلقات خوشگوار رکھنے کے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ ہم جب ایران گئے ہیں تو ہماری جہی میل دوستوں، رشتہ داروں اور ہمسایوں، ماں جاپوں کی فرمائشوں کی ایک لمبی لسٹ تھی۔ منجملہ

۱: گیس پر جلنے والی چولہا جس پر روٹی بھی پک سکے

۲: پانچ سیر کشش، اچھی سی دیکھ کر

۳: فلیپس کا ریڈیو اسٹریریو

اصفہانی تمباکو ایک پٹھا

۵: جاپانی ڈز سیٹ

۶: ایک چھوٹا سا معمولی ایرانی قالین

۷: شیراز کا خوشبو دار تیل، ایک کپی

۸: کنگھیاں اور پراندے (چٹلے)

۹: سوکھی ہوئی مچھلی چند ڈبے

۱۰: سویٹر بننے کی سلاخیاں، آٹھ نمبر کی۔

ہم ان فرمائشوں میں سے ۸ اور ۱۰ کی تعمیل کر پائے تھے، یعنی فقط چند کنگھیاں، چند پراندے اور آٹھ نمبر کی سلاخیاں سویٹر بننے کی لاسکے۔ باقی پندرہ فرمائش کرنے والوں سے ہماری تعلقات کی پرانی خوشگواوری اور خلوص کبھی بحال نہ ہو سکا۔

اس راز داری کے باوجود ایک دوست نے ہماری ڈائری میں لکھوا ہی دیا کہ بھابھی کے لیے دو سوٹ بروکیڈ کے۔ ایک پریش کر، اور ایک سلاخی مشین لے کر



آما۔ ایک بزرگ ہمسائے میں سے تشریف لائے اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے میں یہاں کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتا۔ میرے گھر میں سب چیزیں ولایت کی ہیں۔ میرے لیے مسالا پینے کی بجلی کی مشین ضرور لانا۔ یہاں نہیں ملتی۔ چین میں مل جائے گی۔ ایک دوست کو معلوم تھا کہ چینی جوتا اچھا بناتے ہیں وہ اپنے پاؤں کا ناپ ہمیں دے گئے کہ بس دو جوڑے لیتے آنا۔ قیمت یہاں آنے پر نذر کر دوں گا۔ بشرطیکہ میرے ناپ کے نکلے۔ ایک صاحب نے کہا پکنگ کے تالابوں میں رنگارنگ مچھلیاں ہوتی ہیں، ایک مرتبان میرے لیے بھر لائیو۔ ایک دوست ذرا روشن خیال قسم کے تھے۔ انھوں نے فقط اتنی فرمائش پر اکتفا کی کہ اکامریڈ ماؤزے تنگ سے میرا سلام کہنا اور بتا دینا کہ میں ان کے سیاسی خیالات سے پوری طرح متفق ہوں۔ کچھ صاحبوں نے جاتے ہوئے تھے بھی ساتھ کیے جن میں ایک سیٹ چواین لائی کے لیے مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کی تصانیف کا بھی تھا۔ لیکن زیادہ تر دوستوں نے خود اپنی تخلیقات سے نوازا۔ ہمارے دوست دیوانہ بھاگلپوری نے اپنا پھرکتی ہوئی دل گداز غزلوں کا دیوان اور راتوں کی نیند حرام کرنے والا اردو ناول دیتے ہوئے یہ تاکید بھی کہ ان کو ذاتی طور پر ماؤزے تنگ کو پہنچانا۔ کسی اور کے ہاتھ مت بھیجنا۔ آج کل لوگوں کا اعتبار نہیں۔

جہاز صبح چھ بجے جاتا تھا۔ لیکن کسی نے کہا کہ چار بجے ہوائی اڈے پر پہنچنا ضروری ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ ساڑھے تین بجے سے پہلے گھر سے کوچ کرو اور ڈھائی بجے بستر استراحت سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم نے پوچھا کوئی ایسا جہاز نہیں کہ ہم اپنے وقت پر علی الصبح آٹھ ساڑھے آٹھ بجے اٹھیں اور ناشتہ کرتے پان کھاتے چھڑی گھماتے دس گیارہ بجے ہوائی اڈے پر پہنچ جائیں۔ لیکن پی آئی اے کے باکمال لوگوں نے کہ جی نہیں، ہماری لا جواب پرواز ٹھیک چھ بجے روانہ ہو جائے گی۔ ایک بار تو جی میں آئی کہ نہ جائیں۔ چین تو کبھی بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ آج

رات کی نیند ناحق خراب ہوگی۔ لیکن کچھ لوگ جن کو ہمارا پاکستان میں مسلسل زیادہ دن قیام جانے کیوں کھلتا ہے کہنے لگے میاں جاؤ، پھر مچر کیوں کرتے ہو؟ انہی میں سے کسی نے ہمارے بازو پر امام ضامن بھی باندھ دیا۔ یعنی ہمارے نہ جانے کی راہ بالکل ہی مسدود کر دی۔

ہم صبح کیسے اٹھے یا اٹھائے گئے۔ اس کی داستان کا یہاں موقع نہیں۔ لیکن ٹھیک چار بجے ہوائی اڈے پر پہنچے۔ انتظار مخدومی پیر حسام الدین راشدی اور پروفیسر وقار عظیم کا تھا۔ چین جانے والے ادیبوں کے وفد میں ہم تین کو کراچی سے روانہ ہونا تھا۔ تین آدمی ڈھاکے سے اس آب جو میں ملنے تھے۔ پرنسپل ابراہیم خان، کوی جسم الدین اور ڈاکٹر انعام الحق۔ لاہور سے اعجاز بٹالوی اور ڈاکٹر وحید قریشی بھی ڈاکے پہنچ چکے تھے۔ اور یوں یہ ہماروں کا قافلہ ڈھاکے میں مکمل ہو کر آگے چلنا تھا۔

جب ہم نے کھڑے کھڑے ایک ٹانگ کا بوجھ دوسری پر اور دوسری کا پہلی پر منتقل کرتے ہوئے ایک گھنٹہ گزار دیا تو پیر حسام الدین راشدی تشریف لائے ان کے جلو میں ڈاکٹر عبداللہ چغتائی بھی تھے جو پاکستان میں ترکی ٹوپی پہننے والے غالباً آخری مسلمان رہ گئے ہیں۔ دیکھا کہ بڑے پیر صاحب، مخدوم مناعلیٰ محمد راشدی بھی انہیں بد کرنے آئے ہیں۔ ایک دو چینی اور افریقیوں کی ایک ٹولی بھی اسی جہاز سے جا رہی تھی اور ان میں ایک صاحب افریقہ کے کسی ملک کے بڑی مشکل میں گرفتار تھے۔ انہیں انگریزی نہ آتی تھی اور پی آئی اے کے آدمی کو فرینچ میں دخل نہ تھا۔ آخر ڈاکٹر عبداللہ چغتائی کی ۱۹۳۳ء کی فرینچ سے مسئلہ حل ہوا وہ اس کی انگریزی اسے سمجھاتے۔ اس کی فرینچ کا اس کے لیے ترجمہ کرتے۔ کون کیا سمجھا یہ ہمیں معلوم نہیں۔ اتنا دیکھا کہ دونوں چپ ہو گئے۔ اب ہمیں انتظار فقط پروفیسر وقار عظیم کا تھا۔ ساڑھے پانچ بجے تک ان کی راہ دیکھی۔ پھر پی آئی اے والوں نے کہا کہ صاحبو، جلدی چلو اندر ورنہ تم بھی رہ جاؤ گے، جہاز چلنے کو ہے۔ اب یہاں کوئی نہیں

کوئی نہیں آئے گا۔

وقار عظیم صاحب کا قصہ بعد میں معلوم ہوا۔ ٹکٹ پر ٹریول ایجنٹ نے بجائے چھ کے ساڑھے چھ کا وقت ڈال دیا تھا۔ اور وقار صاحب لدے پھندے عزیزوں کے جلو میں پورے چھ بجے ہوائی اڈے پر پہنچے تو ہمارا جہاز پر پرواز کھول چکا تھا۔ وقار صاحب کو تین دن کراچی میں چین کی اگلی پرواز کا انتظار کرنا پڑا۔

ڈھاکہ میں یہ جہاز گھنٹہ بھر ٹھہرتا ہے۔ ہمارے باقی رفیق یہاں ہم سے آن ملے۔ پرنسپل ابراہیم خاں وہی ازلی ابدی مہربان مسکراہٹ لیے کوی جیسم الدین اسی طرح کنگھے سے بے نیاز زلفیں لہراتے۔ ڈاکٹر انعام الحق بنے ٹھٹھے۔ اعجاز بٹالوی بھی اور ڈاکٹر وحید قریشی بھی۔ ڈھاکہ سے اس جہاز کو پرواز کئے بس تین ہی دیر لگی ہوگی جتنی کراچی سے ڈھاکہ پہنچنے میں کہ ایئر ہوسٹس نے اعلان کیا صاحبان اپنے حفاظتی بند باندھ لیجئے اور سگریٹ بجھا دیجئے۔ چند لمحے میں آپ کنٹینر کے ہوائی اڈے پر اتریں گے۔

یہ ایئر ہوسٹس دیکھنے میں چینی لگتی تھی لیکن بولتی انگریزی کے علاوہ اردو بھی تھیں۔ آخر ہمت کر کے ہمارے ایک ساتھی نے ان کا اتنا پتہ ہی پوچھ ہی لیا۔ وہ کراچی کے رہنے والے چینیوں میں سے تھیں، یعنی پاکستانی چینی۔ ڈھاکہ سے چین جہاز جاتا ہے تو اس میں پورے مسافر شاید ہی کبھی ہوتے ہوں۔ بہت سی نشستیں خالی جاتی ہیں۔ ہمارے دوست ڈاکٹر وحید قریشی کے ساتھ ولی نشست خالی تھی اس پر انھوں نے اپنی ٹوپی اتار کر رکھ دی۔ ہم نے ان سے کہا کہ جناب اسے اٹھا لیجئے۔ ورنہ اس نشست کا کرایہ بھی وہ آپ سے چارج کر لیں گے۔ ہمارے کہنے کو تو انھیں اعتبار نہ آیا لیکن جب اعجاز بٹالوی نے اور راشدی صاحب نے بھی ہماری تائید کی تو انھیں یقین آ گیا اور بقیہ سفر میں وہ پی آئی اے کی غیر معقولیت پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنی ٹوپی اپنے سر پر رکھے رہے۔

اور یوں جب ہماری گھڑی میں چھ، پیر صاحب کی گھڑی میں تین اور اعجاز کی گھڑی میں چار بج رہے تھے ہم نے کنٹین کی پہلی جھلک دیکھی۔ پیر صاحب نے اپنی گھڑی میں کراچی کا ٹائم رہنے دیا تھا اور اعجاز نے ڈھا کہہ کا۔ ہماری گھڑی کے چھ بجے کنٹین کا ٹائم تھا۔ چین کا ٹائم مغربی پاکستان کے ٹائم سے تین گھنٹے آگے ہے۔ اسی لیے تو ابھی ناشتہ پیٹ میں موجود تھا کہ لنچ کا ٹائم ہو گیا اور اس کے فوراً بعد سہ پہر کی چائے آ گئی اور جلد ہی شنگھائی پہنچتے ہی رات کا کھانا کھانا پڑ گیا۔ بے شک اس وقت شنگھائی میں آٹھ بجے تھے لیکن ہمارے معدے کو یہ باریکیاں کیا معلوم کراچی میں تو ابھی پانچ بجے شام ہی کا عمل تھا۔ ایک دو روز تو ہم یونہی وقتوں کے فرق کے محضے میں گرفتار رہے۔ ایک بجے لنچ پر بیٹھے اور یاد آتا کہ ابھی تو کراچی کے دس بجے ہیں، تو بھوک آ رہی رہ جاتی اور صبح آٹھ بجے اٹھتے اور سوچتے کہ کراچی میں ابھی پانچ کا عمل ہے اور لوگ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہوں گے تو بے اختیار وطن عزیز پر رشک آتا لیکن چند دن میں انہیں میں شیر و شکر ہو گئے بلکہ یوں کہیے کہ چینی ہو گئے۔

کنٹین..... قدیم تاریخ کا امین اور انقلابی تحریکوں کا گہوارہ ہمارے سامنے حد نظر تک پھیلا تھا۔ یہیں مغربیوں کے قدم پہلے پہل آئے۔ یہیں چین کے ایک با ہمت محب وطن عہدے دار نے ۱۹۳۹ء میں افیم کی وہ بیس ہزار پیٹیاں برسر عام نذر آتش کر دیں جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاجر چینوں کو افیمی بنانے کے لیے زبردستی لانے پر مصر تھے اور جس سے مشہور جنگ افیم کا آغاز ہوا۔ جس میں چین کی شکست کے بعد انگریزوں، امریکنوں اور دوسرے مغربی ملکوں کے قدم چین میں جم گئے اور انہیں ملک کو لوٹنے کھسوٹنے اور من مانی کرنے کا موقع ملا۔ یہیں ۱۹۲۷ء میں چیانگ کائی شیک نے ہزاروں انقلابیوں کو ایک دن میں تہ تیغ کر دیا اور کنٹین کی سڑکیں مدتوں خون شہیداں سے رنگیں رہیں۔ اسی شہر میں عہد رسالت کے ایک



غازی کے نقوش پا بھی ثبت ہیں۔ یعنی رسول اللہ کے ایک صحابی ابی وقاص کا روضہ مطہر ہے۔ جنہوں نے مشرق بعدی کے اس دریا رودور میں اسلام کا پودا کاشت کیا۔ لیکن آج اس شہر پر ہماری فقط نظر سے خوش گزر رہی تھی۔ یہاں ہمیں کچھ دن بعد آنا اور چند دن ٹھہرنا اور زیارتیں کرنا تھا۔ اس وقت تو فقط ہوائی اڈے پر گھنٹے بھر کو قیام تھا لیکن اسی ایک گھنٹے میں چشم شوق نے وہ نظارہ یہاں دیکھا کہ کبھی نہ بھولے گا۔ یہی ہمارے سفر کا دیباچہ اور نقطہ آغاز ثابت ہوا۔

### حاکم طائی کے نقش قدم پر

کیشن کا موسم اس روز طرفہ خوش گوار اور فرح ناک تھا۔ بادل چھائے تھا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ مکان، درخت، پودے سبھی سے معلوم ہوتا تھا کہ ہم ڈھاکے میں ہیں۔ اگر پیننگ چین کا راولپنڈی اور شنگھائی چین کا لاہور ہے تو کیشن کو چین کا ڈھاکہ کہیے، اس سے پہلے ایک شہر اور دیکھا تھا کہ ڈھاکے کو چھپاؤ اسے نکالو۔ نہ صرف سڑکیں، مکان، پرند، چرند، پودے، درخت پھل، پھول عین عین ڈھاکے کی تصویر تھے بلکہ لوگوں کو دیکھ کر یہ گمان اور مضبوط ہوتا تھا۔ وہ شہر تھا کولمبو۔ کیشن میں یہ بات اس حد تک نہ تھی لیکن ایک گونہ مشابہت تھی ضرور۔ دونوں سے مشرق بعیدیت صاف جھلکتی تھی جب کہ لاہور اور کراچی کا آب و ہوائی اور جغرافیائی رشتہ مشرق وسطیٰ سے ہے۔

کیشن میں ہماری آمد کی کسی کو اطلاع نہ تھی کیونکہ ہماری منزل تو پیننگ تھی لہذا آزادانہ گھومتے پھرے۔ دیکھا کہ ہوائی اڈے کے میدان میں سیکڑوں بچیاں رنگارنگ پوشاکیں پہنے بیربھوٹیاں بنی ہاتھوں میں گجرے لیے پریڈ یا کسی پریڈ کسی ریہرسل کر رہی ہیں۔ ہوائی اڈے کے صدر دروازے سے باہر جھانک کر دیکھا تو اور ایسی ہی کئی ٹولیاں نظر آئیں اور پھر ان ٹولیاں میں اضافہ ہوتا گیا۔ اب ہم سمجھ گئے کہ کوئی بڑا آدمی آنے والا یا جانے والا ہے۔ ایک دو آدمیوں سے پوچھا تو پتہ چلا

کوئی وفد اسی جہاز سے روانہ ہوگا۔ اتنے میں ہوائی اڈے کے ایک اور برآمدے میں ایک سکھ کھڑا نظر آیا۔ سکھ اور چین میں! ہم نے قریب جا کر دیکھا کہ اپنے سائیں خمیسو خاں الغورے والے تھے۔ بڑے تپاک سے سلام علیک ہوئی اور یہ بھید کھلا کہ پاکستان کا ثقافتی وفد ہے۔ ابھی وداعی رسول سے فارغ ہو کر انتظار گاہ سے برآمد ہو گا۔

اس وفد میں ہمارے کئی شناسا اور دوست تھے۔ بعض آرٹسٹ سے بھی دعا سلام تھی۔ نذیر بیگم نظر آئیں کہ چین کی ٹھنڈی آب و ہوا نے ان کو پیر بہوٹی بنا رکھا تھا۔ فر دوسی بیگم کو بھی پہچانا۔ پاکستان کونسل لاہور کی ڈائریکٹر فرح نگار عزیز سے بھی یاد اللہ تھی۔ انہوں نے ہائیں کہہ کر اعجاز کو آلیا۔ وفد کے ایڈر ظل الرحمن کہ ڈھا کہ ریڈیو سٹیشن کے ڈائریکٹر ہیں۔ ہمارے پرانے دوست ہیں ان سے مصافحے اور معاف کی منزل طے ہوئی تو بولے تم کہاں؟ ہم نے کہا میاں جی! یہ دنیا کا روالا ہے۔ کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے۔ جس کام سے تم آئے تھے اسی سے ہم آئے ہیں۔ وہ ہے اس ہمسایہ قدیم سے کلچرل تعلقات کی استواری۔ اتنا البتہ ہے کہ تم نے جس زبان میں بات کی۔ رقص اور موسیقی، وہ ہر جگہ سمجھی جاتی ہے ہم لکھنے لکھانے والے ترجمانوں کے محتاج ہوں گے لیکن خیر میاں آزاد دیکھیں گے۔

اب دونوں وفدوں کے لوگ مل جل گئے، آنے والوں نے جانے والوں سے پوچھا کہ چین کیسا پایا؟ کیسے ہیں اس دریا کے لوگ؟ جس سے خطاب کرو لفظوں کی تلاش میں کھویا جاتا ہے۔ خمیسو خاں نے کہا کہ سائیں ہم نے تو ایسے آدمی زندگی میں کبھی نہ دیکھے، ایک اور آرٹسٹ بولے ایسے دوست اور مہمان نواز نہ دیکھے نہ سنے۔ جو محبت ان لوگوں نے ہم پر نچھاور کی ہے بیان سے باہر ہے۔ فرخ عزیز نے کہا ہم نہیں بتاتے تم لوگ خود دیکھو۔ لیکن وفود جذبات میں سب سے بے حال وہی نظر آتی

تھیں۔

اور بے شک آنے والی کتاب کا دیباچہ ہم نے وہیں دیکھ لیا۔ چینی اور پاکستانی آرٹسٹ مغنی اور رقاص بار بار بغل گیر ہو رہے تھے، گلے مل رہے تھے۔ جہاز کا وقت ہو رہا تھا لیکن ایک دوسرے سے جدا نہ ہو رہے تھے۔ جوان جہان لڑکیاں برہ کے ماروں کی طرح زاروں قطار رو رہی تھیں۔ فردوسی بیگم کے آنسو نہ تھمتے تھے۔ سب کے سب گلدستوں، پھولوں اور انواع و اقسام کے تحفوں سے لدے تھے۔ باہر باجا بج رہا تھا۔ کرتب ہو رہے تھے، کچھ کھلاڑی کاغذ کا ایک بڑا اثر دھا لیے کہ چین کا قومی نشان ہے۔ اپنے خاص طریقہ انداز میں اسے نچا رہے تھے۔ اب یہ سب لوگ رخصت کرنے والوں کی دورویہ قطاریں سے جلوس کی صورت میں گزر رہے۔ ان کے پیچھے پیچھے اس انداز رخصتی کو تقریب پذیرانی بنا کر ہم بھی چلے۔ اور کچھ گجرے، کچھ نعرے اور بہت سی تالیاں ہمارے بھی حصے میں آئیں۔

صاحبو! پاکستان سے چین، جہاز جفتے میں دو جاتا ہے۔ ایک بار ڈھا کے سے شنگھائی وہاں سے کیٹین اور پھر ڈھا کے واپس۔ دوسری بار ڈھا کے سے پہلے کیٹین، پھر شنگھائی اور وہاں سے سیدھا ڈھا کے۔ اس روز یہ دوسری پرواز تھی۔ لہذا شنگھائی تک ان پاکستانی دوستوں کی معیت رہی۔ راستے میں پیر صاحب کے حکم سے خمیسو خاں دیر تک الغوزہ سنایا کیے، سماں باندھ دیا۔

شنگھائی میں اترے تو ظل الرحمن نے کہا تمہارا اوور کوٹ کہاں ہے؟ ہم نے کہا اوور کوٹ تو ہمارے پاس کبھی نہ تھا اور یہاں اس کی کیا ضرورت، یہ سوٹ کیا کافی نہیں؟ اور سوئٹر بھی ایک ہے۔

بولے۔ تمہارے مرضی دیوار چین دیکھنے جاؤ گے تو تمہاری قلفی جھے گی۔

قلفی ہمیں پسند ہے۔ بشرطیکہ ہماری اپنی نہ ہو۔ لہذا ہم نے کھڑے کھڑے ظل الرحمن کا اوور کوٹ اتروالیا۔ بولے شوق سے لے جاؤ لیکن واپس کر دینا اور کہیں

اس پر ان کے وفد کے ایک مغنی کہ لاہور کے تھے لیکن ان کا نام نہیں معلوم، بے اختیار ہنس دیئے۔ بولے خیر صاحب یہاں بھولنے کا امکان نہیں۔ آپ ہزار بھولیں یہ لوگ نہیں بھولنے دیں گے۔ اس سڑی ہوئی ٹوپی کو لیجئے جو آپ میرے سر پر دیکھ رہے ہیں اسے میں لے تو آیا تھا لیکن چونکہ دوسری بھی موجود تھی لہذا اسے پیکنگ کے ایک ہوٹل میں پھینک دیا۔ انہوں نے میرے پیچھے ہانگ چو بھیج دی۔ ہانگ چو میں میں اسے ایک پارک میں بیچ پر چھوڑ آیا، کسی نے اٹھا کر جھاڑ پونچھ کر یہاں کینٹن بھیج دی۔ اب ڈھاکے میں جا کر اسے چھٹکارا حاصل کروں گا عذاب بن گئی ہے میرے لیے۔

شنگھائی..... وہ شہر غدار کہ انقلاب سے پہلے اپنے فوجی خانوں، ٹائٹ گلوبوں اہل یورپ کے استحصال اور مقامی باشندوں کی تکلیت اور افلاس کی بنا پر سینہ چین کا ناسور کہلاتا تھا۔ حد نظر تک ہمارے سامنے پھیلا تھا۔ یہ ہمارے سفر کا دوسرا پڑاؤ تھا یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ یہاں شنگھائی کا انجمن مصنفین کی طرف سے ایک صاحبہ ہمارے خیر مقدم کو موجود تھیں۔ سامان وغیرہ چھڑوانے کے لیے انہوں نے ٹکٹ ہم سے لے لیے اور کہا اس دوران میں ماہر تاول فرمائیے۔

پہلی منزل کے اس شاندار اور دلکش ریسٹوران میں یہ طے کرتے اور آپس میں بحث کرتے کہ چینی کھانے میں بسم اللہ کی جائے یا ولایتی کی فرمائش کریں۔ پندرہ منٹ گزر گئے چینی کھانے میں احتیاط کی وجہ یہ تھی کہ ترجمان کوئی آس پاس نہ تھا۔ اور ہم میں سے مینڈک وغیرہ کوئی نہ کھاتا تھا۔ خیر پندرہ منٹ بعد جو بھی کھانا آیا خواہ وہ چین کا تھا یا مغربی، ہمارے لیے تھا یا کسی اور کے لیے سب نے بڑی رغبت سے نوش جان کیا اور اب ہم پھر سفر کے لیے تیار تھے۔ شنگھائی سے پیکنگ کے لیے چینی فضائی کمپنی کا جہاز تھا۔



پیکنگ جانے والے اس جہاز میں ہمارے علاوہ بس دو چار اور مسافر تھے۔ ایک منہمی منی لڑکی ایئر ہوسٹس تھی۔ برس پندرہ یا کہ سولہ کا سن۔ کم از کم ہمارا اندازہ یہی تھا لیکن اس سے پوچھا، تو اس نے بائیس سال بتائے۔ ہمیں چین کے قیام میں بارہا شبہ ہوا کہ جس طرح ہمارے ہاں آداب مجلس کا تقاضا ہے کہ اپنی عمر پانچ سات برس کم کر کے بتاؤ، خصوصاً آپ خاتون ہیں تو اسی طرح چین کے ضابطہ اخلاق کے بموجب اپنی عمر بڑھا کر بتانا مستحسن خیال کیا جاتا ہوگا۔ لیکن تحقیق پر حقیقت یہ نکلی کہ یہ لوگ بدن چور ہیں۔ بین کو اکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ لیکن صاحبو، اب گفتگو کے دفتر تہ کرو کہ شہروں کا شہر پیکنگ آیا جاتا ہے۔ وہ یکن جس کا ذکر ہم نے پہلے پہل حاتم طائی کے قصوں میں پڑھا تھا۔ اپنے دوست منیر شامی کی محبوبہ کے ایک سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے اس اولوالعزم کو یہاں بھی آنا پڑا تھا۔ مارکو پولو یہاں بارہویں صدی عیسویں میں آتا ہے اور قبلائی خاں کے دربار میں سند و خلعت پاتا ہے۔ وطن واپس جا کر اس شہر کا احوال اس نے رقم کیا تو زمانہ وسطیٰ کے یورپ نے جو ابھی جہالت اور مذلت کی دلدل میں تھا۔ اسے دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے کے لقب سے نوازا۔ ابن بطوطہ اس کے کوئی آدھی صدی بعد آتا ہے اور اب ہماری باری ہے۔ لیکن ہم تو کراچی سے صبح چلے اور ہنستے کھیلتے، چائے پیتے، لُنج کھاتے، حفاظتی بند کھولتے باندھتے شام کو پیکنگ میں جا اترے۔ مارکو پولو کو اس مسافت میں کئی برس لگے اور پھر اس عرصے میں نہ اس کو پیچھے والوں کی خبر تھی نہ پیچھے والوں کو اس کی۔ بلکہ قبلائی خان نے خطا کی۔ ایک شہزادی کو ولہن بنا کر ایران کے ایک شہزادے کے لیے مارکو پولو کی معیت میں بھیجا تو منزل پر پہنچنے پر پتہ چلا کہ شہزادہ نامدار کو وفات پائے تو مدت ہوئی۔ خیر سفر ان لوگوں کا حق تھا۔ ٹکٹ کٹا کر پل جھپکتے میں زمین کی طنابیں کھینچ لینا سائنس کا کمال تو ہوا، ہمارا تو نہ ہوا۔

پیکنگ کے ہوائی اڈے پر چینی ادیبوں کا ایک پورا جتھا خیر مقدم کو موجود تھا۔

ٹکٹ ہمارے ان میں سے ایک صاحب نے سنبھالے اور ہم ایک مکلف ویننگ روم میں صوفوں پر جا بیٹھے۔ یہاں فوراً ہی چائے آگئی۔ چینی چائے جس میں نہ چینی ہوتی ہے نہ دودھ اور جو ہماری واپسی تک ہماری رگوں میں گیلحوں کی مقدار میں دوڑ رہی تھی۔ میزبانوں نے اپنا تعارف کرایا۔ یہ رسمی کارروائی تھی۔ سنتے گئے اور ہوں ہاں کرتے گئے۔ اگلی صبح تک سب ایک دوسرے کا نام بھول چکے تھے۔ مہمانوں کا تعارف کرانا ہمیشہ ہمارے ذمہ رہا۔ کیونکہ وفد کے لیڈر اراکین کے ناموں اور کاموں سے ابھی پوری طرح واقف نہ تھے۔

ایک آدھ جگہ البتہ شمع ان کے سامنے پہنچی تو انہوں نے ہمیں پاکستان کا ممتاز اور مشہور ناول نویس قرار دیا اور چونکہ تردید کرنا خلاف آداب تھا۔ لہذا ایک میزبان کے اشتیاق آمیز استفسار کے جواب میں ہمیں اپنے ناولوں (آگ کا دریا، خدا کی بستی، آئین وغیرہ) کی تعداد بتانی پڑی۔ وہ ان تصانیف کے نام بھی نوٹ کرنا چاہتے تھے لیکن ہم نے ازراہ انکسار کہا کہ اس کی چنداں ضرورت نہیں۔

پرنسپل ابراہیم خاں ہمارے بار بار کے تعارف کے باوجود اہل چین کے لیے مسٹر خان ہی رہے اور کو یہی گمان رہا کہ پاکستان میں خان کے نام کے بھی لوگ ایوب خاں، صبور خاں، خمیسو خاں وغیرہ ان کے اعزہ ہیں۔ جسیم الدین کو وہ لوگ مسٹر الدین کہنے پر مصر تھے آخر ہم نے کہا ان کو فقط جسیم کہہ لیا کرو۔ کوئی بے حرمتی کا احتمال نہیں۔ راشدی صاحب کے نام سے انہوں نے صرف الف گرایا کہ یوں بھی حرف علت ہے اور حسب ضرورت ہمارے ہاں بھی گرایا جاسکتا ہے۔ ڈاکٹر انعام الحق کو مسٹر ہک ہونا ہی تھا۔ ڈاکٹر قریشی فقط ڈاکٹر کوئی چچی بنے رہے۔ وقار عظیم صاحب مسٹر عظیم سے آگے نہ بڑھے بلکہ ہمارے رئیس وفد نے نہ جانے کیوں ان کو آخر تک باقر عزمی ہی کہتے رہے۔ اعجاز بٹالوی کو کسی نے مسٹر باٹلوی کے علاوہ کچھ نہ کہا۔ ہم نے کہا اور رکھو وطن کی نسبت۔ اچھے خاصے اعجاز سے باٹلوی بن گئے لیکن

وہ اسی میں خوش تھے۔ ہمارا نام سب کو آسان نظر آیا۔ مسٹر انشا بولنے میں سب ٹھیک تھا لیکن اس لکھے کو کوئی پڑھتا تھا تو مسٹر ہنسایا اینسا بن جاتا تھا۔ مسٹر کے لیے ان کے ہاں کوئی لفظ جو صاحب کی طرح نام کے بعد آتا ہے، پہلے نہیں۔

گیارہ ساڑھے گیارہ بجے ہوں گے کہ ہم فرود گاہ سے قیام گاہ کو چلے۔ خاصی مسافت تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ یہ اپریل کی بیسیویں کا ذکر ہے اور یہ ایام شمالی چین میں خوشگوار سردی کے گئے جاتے ہیں ورنہ مہینہ بھر پہلے تک تو برف باری اور سردی نے لوگوں کو مریزا پھویا بنا گھروں میں مقید کر رکھا تھا۔ آدھی رات کا عمل تھا لیکن سڑکوں کے دور یہ کام کرنے والے کام کر رہے تھے۔ روشنی کے بڑے بڑے ہنڈے رات کو دن بنائے ہوئے تھے۔ ٹریکٹر اور بل دوڈ زر خر و شاں اور رواں دواں تھے۔ مولوی محمد حسین آزاد کی نظم رات کا سماں یاد آئی جس میں شب کا سرور چور تک کو اس کے فرائض منہی سے غافل کر کے سلاوتا ہے اور یہاں شاہ تک بیدار تھے اور ملک کی دولت بیدار میں اضافے کی دھن میں پلک نہ جھپکا رہے تھے۔

لیکن ہم تو دیا ر دور کے مہمان تھے اور نیند ہمیں پیاری تھی۔ کتنے ہی کوچے اور راہیں طے کرتے ہم ایک عظیم الشان عمارت کی دلیز پر تھے۔ چینی میں کیا نام ہے؟ یہ تو ہمیں کبھی یاد نہ رہا لیکن دائمی امن کی شاہراہ پر یہ ہوٹل یا قیام گاہ قومی اقلیتوں کا ہوٹل کہلاتی ہے۔ اول درجے کا ہوٹل۔ کمرے پہلے سے مقرر تھے۔ کپڑے بدلنے کے بعد ہم یہ بھی نہ طے کر پائے تھے کہ آج کون سا خواب دیکھا جائے کہ ننڈیا دیوی نے ہماری آنکھیں موند دیں۔

ص ۱۸ ص ۱۹ پاکستانی فنکار ایک چینی آرٹسٹ کی نظر میں

## کچھ چین کے الہ دینوں اور جنوں کے بارے میں

پرائی حکایت ہے کہ ایک پیر مرد دقیا نوس، بڈھے پھوس، ستر اسی برس کا ہن، اللہ اللہ کرنے کے دن، اپنے گھر کے باہر آموں کا پیڑ لگا رہے تھے، ایک راگبیر، تو کون میں خواہ مخواہ کھڑا ہو کر دیکھنے لگا۔ اما بعد بولا کہ بابا اب گئے دن اور تمہاری زندگی ہے۔ ان درختوں کا پھل کھانے کو زندہ تھوڑا ہی رہو گے۔ ناحق کو زحمت اٹھاتے ہو۔ بڑے میاں نے بھوؤں کی جھالیں ہٹا کر اجنبی کو دیکھا اور کہا کہ یہ تناور جغادری درخت جن کے پھل میں نے کھائے اور کھاتا ہوں، میرے پرکھوں نے لگائے تھے، جو لگا رہا ہوں اس کا پھل میرے بچے پوتے کھائیں گے۔

درخت لگانا ایک سہل ہے، ہم آج جس چیز کی بنا ڈالتے ہیں خواہ کوئی باغ ہے یا صنعت ہے یا نظام ہے۔ ضروری نہیں کہ اس کا پھل کھانے کو ہم خود زندہ رہیں۔ یہ بات ہوتی تو ماؤزے تنگ اور اس کے ساتھیوں کو جو عمر کے آخری مرحلے میں ہیں کبھی اتنے کشت اٹھانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ مزے سے سوئزر لینڈ کے بنکوں میں موٹی موٹی رقمیں جمع کر کے عیش کرتے۔ جائیدادیں بناتے اور جب کبھی عوام کی طرف سے کوئی خطرہ پیدا ہوتا۔ سات سمندر پار سے خدائی فوجدار کو بلا تے کہ بھیجو چھپن کروڑ کی چوتھائی۔ آؤ فوجی اڈے بناؤ اور اپنے وفاداروں کی پشت پناہی کا حق ادا کرو۔ کچھ خود کھاؤ کچھ ہمیں کھلاؤ۔

لیکن دوستو! یہ موقع اس قسم کی گفتگو کا نہیں۔ یہ تو سیر پانچویں درویش کی ہے اور تقریب اس ذکر کا یہ کہ پہلے ہی روز جو ہم پیکنگ کی سڑکوں پر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسکول کے لڑکوں کے غول کے غول ٹہنیاں، پودے، قلمیں اور پیڑ ہاتھوں میں اٹھائے شجر کاری میں مصروف ہیں۔ چہروں پر ذوق و شوق اور چلبلاہٹ۔ ایک سے دوسرا بازی لے جانے کی پوری کشش کر رہا ہے۔ ہمیں وہ دن یاد آگئے جب پرائمری کی جماعتوں میں پڑھتے ہوئے ہماری پوری کلاس کھیتوں میں نکل جاتی تھی اور دو دو



میل تک پوہلی کاٹتی چلی جاتی تھی۔ یہ ایک خاردار بوٹی ہوتی ہے جو پھیل جائے تو فصل کو بڑا نقصان کرتی ہے۔ اس عالم میں نہ دھوپ کا خیال ہوتا تھا نہ کسی صلے کی توقع۔ سو یہی جذبہ ہم نے ان سیکڑوں ہزاروں طالب علموں میں دیکھا جو سڑکوں کے گرد درخت لگاتے ہیں۔ چائے کے باغوں میں جا کر چائے چنتے ہیں اور مضافات کے کمیونوں میں جا کر سبزیاں اور فصلیں بوتے اور کاشت کرتے ہیں۔ یہ رضا کار جتنے وہ کام کرتے ہیں جو تنخواہ دار کارگر صلے کے عوض نہ کر سکیں۔ ان کو نہ کہیں سے کھانا ملتا ہے نہ کوئی اور سہولت۔ دیکھا کہ کھانے کی پوٹلیاں ساتھ ہیں اور پیدل مارچ کر رہے ہیں۔ کہیں کوئی ٹرک پاس سے گزرا تو لفٹ دے دی۔ بعض اوقات تو یہ لوگ ایک دو دن نہیں بلکہ ہفتے ہفتے بھر کے لیے باہر نکل جاتے ہیں۔ ہانک چو کے چائے کے باغوں کے کمیون میں ہم نے ایسی ہی ایک جمعیت دیکھی۔ یہ لوگ گھروں سے پانچ پانچ سات سات روپے لے کر نکلتے تھے۔ کام کرتے تھے، کھیتے تھے۔ سایہ دیوار میں آرام کرتے تھے اور جس روز وہ ہمیں ملے ہیں ان کے بستر ایک ٹرک پر بار تھے۔ اس میں بھی قرار دیا یہ تھی کہ سامان یہ ٹرک ایک خاص منزل پر پہنچا دے گا لیکن ساری انفری خود مارچ کرتی جائے گی۔

۱۹۵۸ء تک پیکنگ میں خال خال درخت نظر آتے تھے۔ لیکن ۱۹۶۰ء تک اس شہر میں نوے لاکھ درخت لگ چکے تھے اس کے بعد جو لگے ان کی گنتی معلوم نہیں۔ لیکن تعداد ایک کروڑ سے اوپر ہوگی۔ یہ لوگ سڑک کے دو رویہ فاصلے فاصلے سے ایک درخت لگانے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ بعض جگہ پانچ پانچ سات سات متوازی قطاریں چلی گئی ہیں ایسی بھی شاہراہیں ہیں جن کے کنارے بیس بیس قطاریں ایک کے پیچھے ایک چلی گئی ہیں۔ درخت نہیں جنگل کہیے۔ شہر کے مرکز میں ان لوگوں نے چھوٹے پیر کاشت کرنے اور پھر سالوں انتظار کرنے کے بجائے یہ کیا کہ قدم آدم بلکہ اس سے ڈیوڑھے دگنے درخت اکھاڑ لائے۔ پنجابی میں تو اسے چلکلی نکالنا

کہتے ہیں اردو اصطلاح معلوم نہیں۔ چلکئی تو آج کل درختوں ہی کی نہیں عمارتوں کی بھی نکالی جاتی ہے۔

ماسکو میں عمارتوں کی عمارتیں، بلاکوں کے بلاک، کھود کر ان کے نیچے پھنی شہتر پھنسا کر اور ان میں پیسے لگا کر کہیں کے کہیں منتقل کر دیئے گئے۔ لیکن یہاں درختوں کا ذکر ہے۔ گڑھے پہلے کھود لیے جاتے ہیں کرین درخت کو اٹھا کر اس میں رکھ دیتی ہے اور مٹی برابر کر کے پانی دے دیا جاتا ہے۔ چند روز میں وہ جم جاتا ہے جیسے پانچ سات پہلے لگا ہو۔ یہ احوال ہم نے صرف پکنگ میں نہیں سبھی شہروں اور قصبوں میں دیکھا۔ دعوتوں میں کہیں جام صحت تجویز کرنے کا موقع آیا تو ہم نے چین کے درخت کاروں ہی کے نام کیا جو سڑکوں اور کھیتوں میں فصلیں اور پیڑ کاشت کر رہے ہیں اور نئے فہنوں میں عزم خودداری اور سخت دوتی کے نونہال۔

جغادری اور دیو ہیٹ عمارتوں کی تعمیر بھی اس فوق تعمیر کا دوسرا پہلو ہے۔ ۱۹۵۹ء میں چین کے انقلاب کی دسویں سالگرہ تھی۔ ۱۹۵۸ء کے اواخر میں اس تقریب سے پکنگ کے لوگوں نے عزم کیا کہ وہ دس عظیم الشان عمارتیں بنائیں گے اور دس مہینے کے اندر بنائیں گے۔ تاکہ یکم اکتوبر ۱۹۵۹ء کو دسویں یوم انقلاب پر وہ تیار ملیں۔ ان عمارتوں کی وسعت کا اندازہ کرنا ہو تو یہ جانئے کہ ایک ایک میں اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کی کئی کئی عمارتیں سما جائیں۔ قمر ہاؤس کی سی بلڈنگیں تو جانے کتنی ہوں گی۔ ان دس عمارتوں میں ایک تو عوام کا تالار عظیم ہے جو اپنی وسعت میں شاید دنیا بھر میں نظر نہ رکھتا ہو۔ کوئی بڑا غیر ملکی مہمان، صدر مملکت یا وزیر اعظم وغیرہ آئے یا کوئی اہم تقریب ہو تو اس میں جلسہ ہوتا ہے۔ اس کے کمرہ طعام کا اندازہ اس سے کیجئے کہ پانچ ہزار آدمی بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ ہال کی بالکونیوں میں دس ہزار آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اور یہ مدور بالکنیاں بلاستونوں کے قائم ہیں۔ ابھی حال ہی میں افرو ایشیائی مصنفوں کی جو ہنگامی اجلاس ہوا اور جس میں

پاکستان کے نمائندے بھی شریک ہوئے ان کی دعوت بھی وزیراعظم چواین لائی نے اسی عمارت میں کی۔ پیکنگ کا مرکز تائی این من چوک ہے یہاں ایک پرانا تاریخی دروازہ ہے۔ جس کے پیچھے شاہی محلات ہیں۔ پرناے زمانے میں شاہی فرمان اسی بالکنی سے نیچے انتظار رکنے والے امراء وزرا اور حکام مملکت کو پھینکے جاتے تھے۔ عوامی جمہوریہ چین کا اعلان بھی ماؤزے تن اور اس کے رفیقوں نے اسی بالکنی سے کیا اور اس کا پرچم بھی پہلی بار یہیں کھلا۔ جس کی یادگار بھی قائم ہے۔ پہلے یہاں کچھ چھوٹی موٹی عمارتیں تھیں اب ان کی جگہ ایک بہت وسیع چوک ہے جس میں خاص موقعوں پر پریڈ بھی ہوتی ہے۔ اس چوک کو پیکنگ بلکہ چین کا دل کہیے۔ عوام کا تالار عظیم اسی کے ایک پہلو پر واقع ہے۔ اور بالمتقابل پہلو پر چین کی تاریخ اور چین کے انقلاب کے ڈھنڈار عجائب خانے ہیں۔ تالار عظیم کی وسعت اور اسلوب تعمیر نے بہت سے مغربی مبصروں کو حیران کیا ہے۔ ان میں ایک صاحب لکھتے ہیں کہ صوتیات کا کوئی مسلم یا مروج اصول ایسا نہیں جس سے انحراف نہ کیا گیا ہو۔ اس کے باوجود اس کے ہر حصے میں آواز یکساں طور پر سنی جاسکتی ہے۔ ہال کی دس ہزار نشستوں میں سے ہر ایک کے پیچھے ایک ننھا سا مائیکروفون چھپا ہوا ہے۔ ہر نشست کے ساتھ کانوں کو لگا کر مختلف زبانوں میں ترجمہ سننے کے آلات بھی لگے ہیں اگر تقریر چینی زبان میں ہو رہی ہے تو چاہے اس کا ترجمہ انگریزی میں سنئے چاہے روسی میں۔ کچھ اور زبانوں کا بھی انتظام ہے فقط ایک بٹن دبانا ہوگا۔

اس عمارت کی تعمیر میں چودہ ہزار آدمی، کاریگر اور کارندے وغیرہ تو لگے ہی تھے لیکن پیکنگ کے لوگ بھی رضا کارانہ آکر کام میں جٹ گئے۔ شاموں کو اور اتوار وغیرہ کو ہزاروں شہری آکر ہاتھ بٹاتے رہے اور فخر سے کہتے ہیں ہاں ہمارا ہاتھ بھی اس کی تعمیر میں ہے۔ فلیکس گرین کہتا ہے کہ اگر یہ ہاں دس سال میں بھھی پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے تو تعمیرات کا ایک شاندار کارنامہ قرار پاتا۔ لیکن دس ماہ میں اس کا بننا

ایک عجوبہ سے کم نہیں۔

یہی تحیر دوسری عمارتوں کو دیکھ کر ہوتا ہے جو ان دس ماہ میں بنیں۔ چین کی تاریخ اور انقلاب کے عجائب گھروں کا ذکر ہم تفصیل سے آگے چل کر کریں گے۔ انہیں دیکھ کر بھی اللہ کی قدرت یاد آتی ہے۔ قومیتوں کا محل بھی اپنی شان کی ایک ہی عمارت ہے۔ اور ہمیں خیال ہوتا ہے کہ وہ ہوٹل بھی جس میں ہم قیام فرما تھے، اسی منصوبے میں شامل تھا۔ پکنگ کا نیا اور بے مثال ریلوے اسٹیشن بھی انہیں دس ماہ میں بنا، بلکہ دس ماہ نہیں ساڑھے ساہ ماہ میں۔ اس کے متعلق بھی ہمارا اندازہ ہے کہ اگر پانچ سات برس میں بنے تو قابل تعریف کارگزاری ہوگی۔ لیکن ساڑھے سات ماہ میں؟ اگر لوگ آنکھوں دیکھی نہ کہیں تو کبھی یقین نہ آئے۔ ایک صاحب ۱۹۵۸ء کے اواسط میں وہاں تھے تو کچھ نہ تھا۔

۱۹۵۹ء کے یوم انقلاب پر گئے تو جیرانی ہی جیرانی۔ الہ دین نے اپنی عروس کے لیے رات بھر میں محل کھڑا کر دیا تھا جو اس کے چراغ کے جن کا کارنامہ تھا۔ الہ دین چینی تھے اس کا جن بھی چینی ہوگا، لہذا خیال ہوتا ہے کہ ایسی باتیں چین ہی ہو سکتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ چراغ غیر کے قبضے میں گیا تو الہ دین کا محل بھی غائب ہو گیا۔ ماؤزے تنگ کا چراغ محنت کا جادو ہے اسے زوال نہیں اسی محنت کو چراغ جانے۔



## عجائب، نئے اور پرانے

پیکنگ کاریلوے اسٹیشن اپنے جلال و جمال میں ایک نادردہ کار عمارت ہے۔ سامنے کے چوگان میں جہاں قاعدے کے مطابق کیلے اور مونگ پھلیوں کے چھلکے۔ چاٹ کے خالی دوئے، پان کی پیکیں، سگریٹ کے ٹکڑے اور دوسری غلاظتوں کے ڈھیر ہونے چاہئیں۔ آپ کچھ بھی نہ پا کر مایوس سا ہو جائیں گے، کیا مجھلا اور دھلا دھلا یا فرش ہے۔ اندر داخل ہو کر ایوان کی چھت پر نظر ڈالنے کے لیے۔ آپ کے پاس پکڑی ہے تو پکڑی سنبھال لے، ٹوپی ہے تو ٹوپی۔ احتیاط کیجئے۔ فرش پر پاؤں نہ پھسل جائے۔ یہاں آپ کو چین کے طول و عرض کے بھانت بھانت کے لوگ مل جائیں گے۔ کچھ کام کی نیلی وردی میں، کچھ روٹی کی بنڈی یا مرزلی پہنے، کوئی شمال کا، کوئی جنوب کا۔ سکینا نگ کے لوگ تو دور ہی سے پہچانے جائیں گے۔ السلام علیکم کہیے، وعلیکم سلام کہیں گے۔ اس کے بعد نہ آپ ان کی بات سمجھ سکیں گے نہ وہ آپ کی۔ زیادہ سے زیادہ آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر پاکستان کہیے۔ (چینی لوگ پاکستان کہتے ہیں) وہ سکینا نگ کہے گا۔ سامان خود اٹھائے ہوئے ہیں اب ایوان کے دونوں سروں پر آپ بجلی کی سیڑھیاں (الیکٹریلرز) دیکھیں گے۔ ان پر چڑھ کر ٹکٹ گھر کی کھڑکیوں اور آرام گاہوں تک پہنچئے۔ کچھ ان میں سے زیریں منزل پر ہیں۔ اوپر پہلی منزل کے فرشوں پر بھی اتنی صفائی اور جلا ہے کہ ہم جیسوں کا جی گھبرا جائے، دور رو یہ بڑے لمبے لمبے تالار ہیں۔ اسٹیشن ماسٹر صاحب.....

یہاں ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اپنا ہی قطع کلام کر کے کچھ چین کے ضابطہ اخلاق کے متعلق عرض کریں، اگر آپ کو کوئی جگہ دیکھنی ہے۔ یونیورسٹی ہے یا لائبریری، عجائب گھر یا کارخانہ، اسکول یا ریلوے اسٹیشن تو آپ کے میزبان متعلقہ افسر اعلیٰ کو فون کر دیں گے۔ کہ ہم فلاں وقت پہنچیں گے۔ افسر اعلیٰ وقت مقررہ سے پانچ منٹ پہلے آپ کے خیر مقدم کے لیے باہر آ کھڑا ہوگا۔ اس کے لیے کوئی شرط

نہیں کہ آپ کوئی سرکاری مہمان یا بھاری بھر کم شخصیت ہیں۔ ماؤزے تنگ نے بھی  
 آپ کو وقت دیا ہے تو دروازے پر آ کر آپ کو خوش آمدید کہے گا۔ یہ نہیں کہ فرلانگ  
 بھر چوڑی میز پر ہاتھ لمبا کر آپ کی انگلیوں کو چھولیا جائے۔ اگر آپ دیر کرتے ہیں تو  
 اتنی دیر اسے بھی انتظار میں کھڑا رہنا ہوگا۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ ایک  
 مخصوص کمرے میں جاتے ہیں جہاں صوفے بچھے ہیں اور چائے اور سگریٹ حاضر  
 ہیں۔ یہاں آپ کو بریف کیا جائے گا۔ یعنی ادارے کا تعارف کرایا جائے گا۔ پس  
 منظر بتایا جائے گا۔ اس دوران میں اسے کتنا ہی ضروری کام ہو، وہ بے چینی ظاہر نہیں  
 کرے گا۔ کسی ٹیلیفون کا جواب نہیں دے گا۔ بے صبری میں بار بار گھڑی نہیں دیکھے  
 گا۔ ان لوگوں کی پابندی اوقات کا ہمیں شروع میں اتنا خیال نہ تھا۔ ہوتا بھی تو  
 عادت سے مجبور تھے۔ ہمارے مستقل میزبان یعنی وہ جو ہماری خاطر داری کے لیے  
 ہمارے ہمراہ رہتے تھے اور ترجمان حضرات ہمیں یہ بتا کر کہ نوبے فلاں جگہ پہنچنا  
 ہے ہمیں لینے کے لیے پونے نو بجے پانچ ہوٹل کی انتظار گاہ میں آ بیٹھتے تھے۔ ہماری  
 منڈلی میں سے ایک آدھ آدمی نوبے نیچے اتر آتا تھا۔ دوسرا کوئی پانچ منٹ بعد چلا آ  
 رہا ہے۔ تیسرا کوئی دس منٹ بعد برآمد ہوتا ہے۔ اب گنتی ہوئی تو سات میں سے چھ  
 موجود ہیں۔ فلاح صاحب باقی ہیں اور آخری اطلاع کے مطابق غسل خانے میں  
 تھے۔ خدا خدا کر کے وہ آئے اور چلنے کی تیاری ہوئی تو ایک نہ ایک صاحب کو یاد آیا  
 کہ میری پنسل یا میری سگریٹ یا میری نوٹ بک کمرے میں رہ گئی ہے ان کے اپنے  
 کمرے تک جانے (اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر آخری بار کنگھا کرنے) اور  
 اپنی چیز تلاش کر کے لانے میں پانچ سات منٹ اور بیت جاتے، ایسا اکثر ہوا کہ  
 وقت نوبے کا دیا اور منزل پر ساڑھے نو بجے پہنچے۔ میزبان بچا رہے کو آدھ گھنٹہ  
 انتظار کرایا۔ ہم نے ساتھیوں سے ایک آدھ بار مودبانہ کچھ عرض کیا تو بولے ہم ان  
 لوگوں کے لیے عمر بھر کی عادت بگاڑنے سے رہے۔

سوسلسلہ کلام کو وہیں سے جوڑتے ہوئے عرض کریں کہ اسٹیشن ماسٹر صاحب نے ہمیں آرام گاہیں بھی دکھائیں اور پلیٹ فارم بھجوں فرلانگ دو دو فرلانگ لمبے تھے۔ ہر منزل کی گاڑی کے لیے الگ الگ آرام گاہ ہے۔ کل سترہ آرام گاہیں یعنی ستر ہزار آدمیوں کی گنجائش ننھے ننھوں کے لیے دوسریاں اور بچوں کے کھیلنے اور دل بہلانے کے لیے چار کمرے ان کے علاوہ ہیں زمریوں میں بچے سوتے ہیں اور زمریوں میں ان کی خبر گیری کرتی ہیں۔ بڑے بچے جھولا جھولتے ہیں یا کوئی کھیل کھیتے ہیں اور جاتے ہیں ماں ان کو وہاں سے لے لیتی ہے۔ پلیٹ فارم پر اس وقت ماسکو جانے والی گاڑی کھڑی تھی۔ معلوم ہوا کہ ایک دن اور رات کی منزل ہے۔ جب سے روس اور چین کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی ہے اس راستے پر ٹریفک کم ہو گیا ہے۔

اس اسٹیشن پر ٹیلی ویژن کا ایسا انتظام ہے کہ مختلف پلیٹ فارموں اور آرام گاہوں کا نظارہ ایک مرکزی کمرے میں بیٹھے بیٹھے کیا جاسکتا ہے۔ ایک کھڑکی معلومات کی بھی ہے جس میں کوئی نہیں ہوتا۔ یہ نہ سمجھئے کہ ہمارے ہاں کی طرح کہیں چائے پینے کیا ہوتا ہے بلکہ ہوتا ہی نہیں۔ ہم نے اسٹیشن ماسٹر صاحب سے پوچھا کہ پھر جواب کیسے ملتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو کھڑکی کے سامنے پا انداز رکھا ہے اس پر کھڑے ہو جائیے۔ کھڑے ہوتے ہی اندر سے ایک شیریں آواز آئے گی۔ ”فرمائیے“ آپ پوچھئے وہ جواب دے گی۔ ہمیں پوچھنا تو کچھ نہ تھا ہم نے کھڑے ہو کر ”نی ہاؤ، نی ہاؤ“ یعنی مزاج شریف کہہ دیا۔ اس کے جواب میں ادھر سے کچھ کہا گیا۔ ہمارے ترجمان نے اس کا یوں ترجمہ کیا کہ ”اے اجنبی مہمان ہم تیرا خیر مقدم کرتے ہیں“۔

اور یہ ہے پیکنگ کا عجائب گھر۔ عمارت ایک ہی ہے لیکن دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ داہنے حصے میں چین کی تاریخ کا عجائب گھر ہے۔ اور بائیں میں چینی انقلاب

کا عجائب خانہ۔ پہلے حصے میں لاکھوں سال قبل مسیح سے شروع ہو کر ۱۸۴۰ء تک کے عجائب ہیں اور انقلاب والے حصے میں اس کے بعد سے ۱۹۴۹ء تک کی یادگاریں ۱۸۴۰ء وہ سال ہے جب کہ جنگ افیم کا آغاز ہوا۔ یعنی انگریزوں نے چینوں پر زبردستی افیم مسلط کرنے اور ناجائز مراعات حاصل کرنے کے لیے چین سے جنگ لڑی اور جیتی اور ۱۹۴۹ء عوامی جمہوریہ چین کا سال تاجیس۔

یہ عمارت ان دس حالی شان عمارتوں میں سے ہے جو انقلاب کی دسویں سالگرہ کے لیے دس ماہ میں تیار کی گئیں۔ یہ اکتوبر ۱۹۵۸ء میں بنی شروع ہوئی اور اگست ۱۹۵۹ء کو مکمل۔ تاریخ چین کا میوزیم تین حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک زمانہ قدیم کا ہال جو پانچ لاکھ سال پہلے سے شروع ہو کر اب سے چار ہزار پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا غلام معاشرے کا ہال جس کا دور اکیسویں صدی ق۔ م سے ۱۹۷۵ء تک محیط ہے۔ تیسرے حصے میں جو جاگیر داروں کے دور سے متعلق ہے ۱۹۷۵ء ق۔ م سے ۱۸۴۰ء تک کے آثار محفوظ ہیں۔

دور قدیم زیادہ تر عہد پاکستان کے آثار قدیمہ سے دلچسپی رکھنے والے اسکالروں کی دلچسپی کی چیز ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے کہا بھی کہ یہ کیا مٹی کی صراحیوں اور پیالے اور کچھ انجریں جمع کر دیئے ہیں۔ خیر انہی دوست نے موہنجودارو کے آثار کے متعلق بھی اسی رائے کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ ”ایسے پیالے اور مشکے تو ہمارے گاؤں کے کہہ رہے ہیں ان کو میں کون سا سرخاب کا پر لگا ہے۔“ پانچ چھ ہزار سال پرانے باجرے اور گیہوں دانے بھی محفوظ ہیں یہ لوگ، پرانے مصریوں کی طرح مردے کے ساتھ طرح طرح کی نعمتیں بھی دفن کر دیتے تھے تاکہ وہ مرنے کے بعد دوسری دنیا میں عیش کرتا رہے۔ ان نعمتوں کے جوں کے توں برآمد ہونے سے خیال ہوتا ہے کہ مردے انہیں استعمال کرنا پسند نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے۔

دور غلاماں (۳۱ ویں صدی ق م تا ۱۹۷۵ء ق م) میں زراعت ترقی پذیر ہوئی۔



ریشم کے کیڑے پالے جانے لگے۔ اور ریشم کا کپڑا بننے لگا۔ دن مہینوں کے حساب کے لیے باقاعدہ تقویم بنی۔ پتیل کے برتن اور اوزار وجود میں آئے۔ روغنی مکئی کا کام بھی ہونے لگا۔ رتھ اور ناؤ کے لفظ اس دور کے کتبوں میں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی تھیں۔

لیکن یہ دور بہر حال غلاموں کا دور تھا جن کو زندگانی کے کوئی حقوق نہ حاصل ہوتے تھے بعض اوقات مرنے والے امیر کے ساتھ اس کے غلاموں کو بھی قتل کر کے دفن دیا جاتا تھا۔ تاکہ دوسری دنیا میں اس کی مٹھی چا پی کر سکیں۔ کیغوشس اور لاؤزے اس دور کے آخری ایام میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد جاگیر داری عہد کی ابتدا ہوتی ہے۔

اتنے بڑے ملک کی تاریخ کو کوزے میں بھی بند کرنا ہو تو بہت بڑا کوزہ درکار ہو گا۔ ہم اس قسم کا خلاصہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا ایک بزرگ نے حضرت یعقوبؑ اور حضرت یوسف علیہم السلام کے قصے کا کیا تھا کہ ”پدرے بود، پسرے داشت، گم کرد، بازیافت“۔ تیسری صدی قبل مسیح شہنشاہ والا قدر شہہ ہوانگ تی سے آغاز کیجئے۔ جس نے شہنشاہ اول کا لقب اختیار کیا۔ اس نے حکم دیا کہ طب، زراعت اور نجوم کو چھوڑ کر بقیہ سبھی علوم کی کتابیں نذر آتش کر دیں جائیں۔ خیر پر دہتوں اور عالموں نے کچھ صحیفے چھپا لیے اور وہ بچ گئے ورنہ آج کفیوشس کا نام بھی کوئی نہ جانتا۔ لیکن اس نے ایک بڑا کام کیا اور وہ ہے دیوار چین کی تعمیر۔

اس کے بعد دو خاندان مشہور ہیں۔ ہان خاندان (۲۰۶ ق م تا ۲۲۰ء) اور تانگ (۶۱۸ تا ۹۰۹ء) ہان دور میں کلاسیکی ادب کو حیات نو ملی۔ بدھ مت آیا۔ مجسمہ سازی اور کاغذ سازی شروع ہوئی۔ چینی خود کو آج بھی ہان ہی کہتے ہیں۔ تانگ دور اس سے بھی زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ اس میں چھاپا خانہ ایجاد ہوا۔ شاعری مصوری اور چینی ظروف کی نقاشی عروج کو پہنچی۔ یہ چین کی تاریخ کا سب سے شاندار دور سمجھا جاتا

ہے۔ اس وقت یورپ میں عہد تاریک تھا۔ اس کے بعد سونگ دور (۱۲۸۰ء۔

۱۹۶۰ء) کیا یہ آرٹ خصوصاً مصوری کے لیے مشہور ہے۔

تیرھویں صدی میں جب یورپ میں صلیبی جنگیں ہو رہی تھیں۔ منگول دیوار

چین کو توڑ کر سونگ خاندان کو تتر بتر کر کے شمالی چین پر چھا گئے۔ چنگیز خاں نے

۱۲۱۳ء میں پیکنگ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے جانشین قبلائی خاں نے ۱۲۳۵ء سے

۱۲۹۴ء تک راج کیا اور جنوبی چین تک اس کے تسلط میں آ گئے۔ مارکو پولو اسی شہنشاہ

کے دربار میں آیا تھا۔ ۱۳۶۸ء سے ۱۶۴۴ء تک پھر ایک چینی خاندان منگ آتا ہے۔

۱۹۱۱ء میں اس کا خاتمہ ہوا اور سن یات سن کی قیادت میں جمہوری دور شروع ہوا۔

آخری مانچو شہنشاہ جو معزول کے وقت صغیر سن تھا۔ اب بھی زندہ ہے اور نئے چین

میں عام آدمی کی خوش باش زندگی بسر کر رہا ہے۔

تاریخ چین کا عجائب گھر ان تمام ادوار کے آثار سے پر ہے۔ ۱۹۰۱ء میں جب

آٹھ سامراجی ملکوں کی متحدہ فوجوں نے پیکنگ پر حملہ کر کے اسے تاخت و تاراج کیا

تو ادب اور آرٹ کے خزانے بھی لوٹ لیے گئے جو اب مغربی ملکوں کے عجائب

گھروں کی زینت ہیں اس کے باوجود باقیات کی وسعت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ

چین کے مختلف شہروں کے عجائب گھروں اور شاہی محلوں میں ایوان کے ایوان

مصوری نقاشی اور ظروف سازی کے شاہکاروں سے پر ہیں۔ ان ذخیروں کو دیکھ کر

احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں تو کچھ بھی نہیں ہے ہم نے ایرانی مصوری اور

راچپوت مصوری کے نمونے دیکھے ہیں لیکن وہ کتنے ہیں اور کیسے ہیں۔ ہے ادب شرط

منہ نہ کھلوائیں..... چینیوں نے مصوری اور شاعری کے علاوہ صدیوں پہلے کی

انجینئری کے بڑے بڑے کارنامے چھوڑے ہیں۔ دیکھا جائے تو عہد عباسی کے

فضلاء اور سائنس دانوں کے بعد جب معقولات کو زوال آیا تو ایران میں صفوی دور

اور ہندوستان میں اکبر تا شاہجہاں کے دور کے جزیروں کو چھوڑ کر باقی ظلمات کا دریا

نظر آتا ہے۔

دونوں عجائب گھروں میں چیزیں اس نفاست اور سلیقے سے سجی ہیں کہ جی خوش ہوتا ہے اور لطف کی بات ہے کہ ڈائریکٹر صاحب انگریزی یا کسی مغربی زبان کا ایک بھی لفظ نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے ساری تعلیم چینی زبان میں چین کے اندر ہی حاصل کی۔ ہماری خاص دلچسپی کی چیزیں چینی انقلاب کا عجائب خانہ تھا۔ جو جنگ افریقہ ۱۸۴۰ء سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں انگریزی فوجوں کے رایت و پرچم، ہتھیار اور خود سب موجود ہیں اور حریت پسندوں کی باقیات بھی جو زیادہ تر نیزوں، تلواروں اور کلہاڑوں سے لڑتے تھے۔ اس کے تاہنگ بغاوت (۱۸۵۰ء تا ۱۸۶۵ء) اور باکسر بغاوت (۱۸۹۹ء تا ۱۹۰۱ء) کے آثار باقیہ دیکھے۔ بعد ازاں کامن ٹانگ یعنی چیانگ کائی شیک کی افواج قاہرہ کے خلاف جدوجہد اور جاپانیوں سے گوریلا جنگ کی نشانیاں ہیں۔ ان میں لانگ مارچ اور سرنگوں کی لڑائی کو ماڈلوں کے ذریعے دکھایا گیا ہے جو خاص دلچسپی کی چیز ہے، چین کی تاریخ اور چین کے انقلاب کے عجائب خانوں کے علاوہ ایک فوجی عجائب خانہ الگ ہے جس میں جاپانیوں اور امریکیوں سے چھینا ہوا اسلحہ ہے اور ایک احاطہ میں ان امریکی جہازوں کے ڈھانچے کھڑے ہیں جنہیں چینیوں نے مختلف اوقات میں اپنے علاقے میں مار گرایا۔

ان سب میں طالب علموں اور مضامین کے دیہاتیوں کے ہجوم دیدنی تھے۔ یہ عجائب گھر فقط تاریخ ہی نہیں سکھاتے، نظر اور سیاسی تعلیم کا بھی ذریعہ ہیں۔ بڑے دروازے سے داخل ہوتے ہی مارکس اینگلس اور لینن کے ساتھ اسٹالین کی تصویر دیکھ کر ایک بار تو سب ٹھٹک گئے۔ وہی اسٹالین جو مغربی دنیا میں تو مقہور تھا ہی اب اپنے وطن میں بھی مردود ہے چینیوں نے اسے سینے سے لگا رکھا ہے۔ اس کی کتابوں کو بار بار چھاپتے ہیں اور اس کی تصویر ہر پبلک مقام پر حتیٰ کہ ہر کمیون میں ملتی ہے۔ ماؤزے تنگ کو اس میں پانچویں سوار کے طور پر شامل نہیں کیا جاتا بلکہ الگ ایک ممتاز

جگہ دی جاتی ہے۔ ہر جگہ اس کے اقوال نظر آتے ہیں۔ قومی عجائب گھر میں اس کے ایک قول مشہور شاعر اور چین کے نائب صدر کو موجو کے اپنے ہاتھ بلکہ برش کا لکھا ہوا آویزاں ہے۔ پکنگ اپنی جگہ ایک بلدہ آثارِ صنایع ہے۔ یہاں اور بھی چھوٹے بڑے عجائب خانے ہیں لیکن وہ دیکھنے کی چیزیں ہیں۔ ہمارا قلم ان کی تصویر کہاں تک کھینچ سکتا ہے۔ فلم ہو تو شاید انصاف کا کچھ حق ادا کرے۔

اور اب اے صاحبو! اٹھاؤ ڈھول اور تھے اور چلو ہمایوں کے مقبرے۔ یعنی چار دیواریوں سے نکلیں اور کھلی فضا کی سیر کے لیے ذرا دیوار چین تک چلیں جو پکنگ سے کوئی چالیس میل کی مسافت پر ہے۔





## ذرا دیوار چین تک

اپریل مہینے کی چوبیسویں تھی اور اتوار کا روز کہ ہم علی الصبح دیوار چین کی زیارت کو روانہ ہوئے۔ یہ پکنگ سے کوئی پچیس تیس میل کی دوری پر ہے اور چین کا لاکھوں مربع میل علاقہ اس کے شمال میں پھیلا ہے۔ اب سے بائیس تیس سو برس پہلے جب یہ بنی تھی تو اس کا مقصد شمال سے تاتاریوں کے حملے کو روکنا تھا۔ تحقیق کہتی ہے کہ جہاں تہاں دیواریں تو مختلف حکمرانوں نے پہلے ہی کھڑی کر رکھی تھیں۔ ہاں شہنشاہ اول چن شہ ہوانگ تی نے ۲۱۴ ق م میں ان کو مربوط کیا۔ ان پر برج بنائے اور دھوئیں کے سگنل دینے کا طریقہ رائج کیا جو اس کے پایہ تخت سیان سے نظر آسکیں، چین والے اپنی زبان میں اس کو دس ہزار میل لمبی دیوار کہتے ہیں، لیکن فی الحقیقت یہ ڈیڑھ ہزار میل کے لگ بھگ ہے کہیں یہ پندرہ فٹ اونچی ہے۔ کہیں پچاس فٹ۔ کچھ حصہ بڑی بڑی اینٹوں سے بنا ہے۔ کچھ پتھروں سے۔ دیوار کے زیادہ تر حصے کے ساتھ ایک بیرونی خندق بھی کھدی دکھائی دے گی۔ یہ ڈیڑھ ہزار میل کا تسلسل بھی ٹوٹ گیا ہے۔ کہیں سے ریل دراتی گزرتی گئی ہے کہیں سڑک بن گئی ہے۔ کہیں امتداد زمانہ نے شکست و ریخت کا عمل کیا ہے لیکن جہاں سے ہم نے اسے دیکھا اور اس پر چڑھے وہاں سڑک اسے کاٹ کر نہیں بلکہ اس کے نیچے سے گزرتی تھی۔ میٹرھیاں چڑھ کر آپ ایک برج پر پہنچتے ہیں جس پر چھت بھی ہے وہاں سے چڑھائی شروع ہوتی ہے اور فرش اینٹوں کا ہے یہ اینٹوں کا فرش بعد کا معلوم ہوتا ہے کیونکہ چودھویں اور سولھویں صدی میں بھی اس کی مرمت ہو چکی ہے۔ بایں ہمہ نیچے کے آثار ضرور دو ہزار برس سے زیادہ پرانے ہوں گے۔

یہاں سیر کو آنے والوں کو ہمیشہ ہجوم رہتا ہے اور اتوار کو بالخصوص۔ زیادہ تر لوگ ریل سے آتے ہیں اور ریل کے سٹیشن سے جو غالباً میل بھر دور ہے پیدل۔ اس کے بعد میلوں تک چڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس روز سردی بھی خاصی تھی۔ یہاں میاں

ظل الرحمن کا کوٹ کام آیا۔ ہمارے لیڈر پرنسپل ابراہیم خاں نے اونٹ کے رنگ کا ایک ڈریس گون نکالا جو اوور کوٹ کا بہت عمدہ کام دے رہا تھا۔ چونکہ اس پر ریشمی دھاگے کی کشیدہ کاری بھی تھی لہذا سب نے ان کو خاقان چین کا خطاب دیا۔ ہماری پارٹی کے زیادہ تر لوگ پچاس ساٹھ ستر کی عمر کے دائرے میں تھے وہ تو برج کی منڈیر پر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر وحید قریشی باوجود اپنی جوانی کے چڑھائی چڑھنے سے گھبرائے۔ اعجاز بٹالوی البتہ ہمیشہ چاق و چوبند رہتے ہیں، اگر کسی پگوڈا پر چڑھنے کی نوب آئی تو ہمیں دونوں نے جرأت کی۔ لیکن یہاں دیوار چین کی چڑھائی میں بازی ہمارے ہاتھ رہی۔ اعجاز دو برج پیچھے رک گئے۔ جی تو اور آگے جانے کو چاہتا تھا لیکن ساتھیوں کے ساتھ واپس بھی تو پہنچنا تھا۔ ان آخری دو برجوں کے درمیان چڑھائی اتنی سیدھی ہے کہ ستر پچھتر درجے کا زاویہ بنتا ہوگا۔ اترنے میں گرنے کا اندیشہ زیادہ تھا۔ جوتا پتھروں پر سے ریٹ رہتا تھا۔ اس لیے ہم نے بغلیں کو در بغلیں کیا یعنی اپنے جوتے اتار کر ہاتھ میں لے لیے جس نے دیکھا تماشا سمجھا اور بچوں نے تو تالیاں بھی بجائیں۔

نیچے اس کے چھوٹا سا چائے خانہ ہے۔ وہاں چائے پی گئی اور پھر دیوار عظیم کے سائے میں تصویر کھینچوائی گئی۔ یہ دیوار جبری مزدوری سے بنی تھی۔ ہماری کتاب، چینی نظمیں، میں ایک نوحہ ہے۔ ایک بی بی مینگ چیانگ نو کے میاں کو زبردستی بیگار میں پکڑ کر لے گئے تھے۔ پھر کیا ہوا، معلوم نہیں غالباً ہزاروں مزدوروں کی طرح وہیں مشقت کرتا ہوا مر کھپ گیا۔ یہ نوحہ بارہ ماہ کی صورت میں ہے، نئے سال یعنی جنوری سے شروع ہوتا ہے۔

لونا سال آیا بہاریں لیے

آج آلوچے پھولوں سے بھر پور ہیں

آج ہر گھر کے در پر ہیں روشن دیئے

لوگ خوش بخت ہیں، لوگ مسرور ہیں  
ہر طرف، ہر جگہ تازگی چھا گئی  
جنوری آگئی

آج پورا ہے بستی کا ہر خاندان  
ایک میرا ہی دل زار و مہجور ہے

و ان کو لے گئے وہ بے گار میں  
اب وہ دیوار عظیم کا مزدور ہے

میرے دل کو یہاں بے کلی کھا گئی  
جنوری آگئی

فروری آئی ہے

اور دامن میں لائی ہے خوابانیاں  
چڑیاں آنے لگیں

اور دکھن کی جانب کی دیوار پر

ایک اک کر کے ڈیرے جمانے لگیں

گھونسلوں کو سجا کر دہن کی طرح

ان کے جوڑے تو گلگشت کرنے لگے

بڑھ گئیں میرے دل ہی کی ویرانیاں

فروری آئی ہے

مارچ، اپریل، مئی جون، جولائی سب کی اپنی اپنی کیفیت ہے۔ پنجاب سندھی  
دکنی سب میں بارہ ماہ سے موجود ہیں، اردو میں بیس پچیس برس پہلے سلام مچھلی شہری  
نے ایک بارہ ماہ لکھا تھا جسے اردو ادب میں اعلیٰ مقام ملنا چاہیے۔ خیر ہمارے چینی  
بارہ ماہ میں سے اب اگست کی سینے۔

ماہ آگست میں گل بدست آگیا

تیج پات آ کے گلشن کو مہکا گیا

ہنس آنے لگے

چھٹیاں خوش نصیبوں کی لانے لگے

اور بے فکر گاؤں کے چوپال میں

سارا دن بیٹھ کر گپ اڑانے لگے

یہ مہینہ بھی یونہی گزر جائے گا

اس کی پوشاک کوئی نہ پہنچائے گا

آخر میں نومبر میں وہ خود فیصلہ کرتی ہے۔ سردی

بھر پور ہے

برف کے گالے پھر چار سو چھا گے

یعنی پھر سے نومبر کے دن آگئے

آپ ہی جاؤں گی

دان کو اس کی پوشاک پہنچاؤں گی

جنگلوں اور پہاڑوں کے کوئے مجھے

راہ بتلائیں گے

اور میں روتی ہوئی

زیر دیوار عظیم پہنچ جاؤں گی

عجیب حسرت آمیز لوحہ ہے خصوصاً ایک جگہ جہاں وہ کہتی ہے۔

مرے پتیم مرے دان کو چھوڑ دو

ظالموں چھوڑ دو

زیر دیوار عظیم بیٹھے اپنے چینی دوستوں سے ہم نے ذکر کیا۔ سب سے اسے سن

رکھا تھا شمالی چین کے لوک ادب کی یہ مشہور چیز ہے۔

مسافر کو پرانی تہذیبوں اور گزرے زمانوں کے آثار ہر جگہ ہر ملک میں نظر آتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ دل کو فوراً گداز کرتے ہیں۔ ہم پر جواثر شیراز میں مزار سعدی کی زیارت پر ہوا۔ ویسی کیفیت تو پھر یا اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی لیکن دیوار عظیم نے کہ جس کا احوال دنیا کے سات عجوبوں کے ضمن میں ہم نے بہت صغر سنی میں پڑھا تھا۔ ایک عجیب اثر جی پر چھوڑ آیا۔ یا پھر دل گداز کی یہ کیفیت کینٹن میں رسول اللہ کے صحابی ابی وقاص کے مقبرے اور نواحی قبرستان کے گل بوٹوں کو دیکھ کر طاری ہوئی۔

تو صاحبو! اب واپسی، لیکن راستے میں منگ بادشاہوں کے زیر زمین مقابر بھی دیکھتے چلو یہ مقبرے کہ زمین کی سطح سے چالیس پچاس گز نیچے ہوں گے۔ غالباً اس لیے زیر زمین بنائے گئے کہ بعد کے آنے والوں کی تخت و تاراج سے محفوظ رہیں۔ منگ وہ چینی خاندان تھا جس نے چنگیز خاں کے وارثوں سے سلطنت چینی۔ اور عہد اس کا ۱۳۶۸ء سے ۱۶۴۴ء تک ہے۔ یوں کہیے کہ مقبروں والے یہ بادشاہ اکبر اعظم کے ہم زمانہ تھے۔ صدیوں یہ مقبرے دنیا کی نظروں سے پنہاں رہے۔ یہ غالباً پچھلی صدی کی بات ہے کہ تجسس کرنے والوں کو ایک لوح ملی جس میں ان کے راستے کی سمت مرموز تھی۔ برسوں کی کھدائی کے بعد ایک دروازہ تیغہ کیا ملا۔ اندر اترے تو بند ایوانوں میں مقبروں کے علاوہ بڑے بڑے چینی کے ظروف میں انواع و اقسام کی نعمتیں موجود پائیں۔ سونے چاندی اور جواہر کے ڈھیر لگے تھے۔ چوٹی تابوت تو سلین اور موسمی اثرات سے خستہ و خراب ہو کر مٹی ہو چلے تھے اور بعد میں دوبارہ انہی نقشوں پر بنوائے گئے لیکن باقی چیزیں سلامت تھیں۔ میڑھیاں اترنے کے بعد دروازوں کو کھولنا آسان نہ تھا۔ جن لوگوں نے دروازے بند کئے۔ انہوں نے اندر کی بلیاں گرا کر ایسا انتظام کیا تھا کہ کوئی باہر سے نہ کھول سکے۔ لیکن دانشمندوں نے



یہ گرہ بھی کھول ہی لی۔ عجیب آسیبی ماحول ہے۔ اوپر ستر اسی فنٹ اونچی چھت ہے۔ نیچے غلام گرد شیں اور طاقے۔ ایک بڑے ظرف میں قربان گاہ کی بتیوں کے لیے تیل بھرا تھا۔ اب بھی موجود ہے لیکن بہت گاڑھا ہو گیا ہے۔ اتنے میں ہمارے چینی دوستوں نے کہا ایک چیز اور رہ گئی ہے ادھر آؤ۔

ایک بہت بوسیدہ چار پانچ سو برس پہلے کا چوبی دروازہ جھک کر پار کیا تو اندر پہنچ کر سب آنکھیں جھپکنے لگے۔ تو کیا منگ زمانے میں ہماری طرح کے صوفے کرسیاں اور میز بھی ہوتے تھے۔ میزبان مسکرائے اس دور کے اس بغلی کمرے کو مہمانوں کی نشست کے لیے درست کر لیا گیا تھا فقط دروازہ عہد قدیم کا باقی رکھا تھا۔ سب بیٹھے چائے آئی اور سب اپنی حیرانی پر ہنسے۔

معلوم ہوا کہ ابھی ایک دو مقبرے کھولے گئے ہیں نشانہ ہی سترہ اٹھارہ کی ہو چکی ہے۔ جوان نواحیات میں میلوں تک نصف دائرے کی شکل میں پھیلے ہوئے ہیں۔

باہر آئے تو میزبانوں نے سب کو ٹھنڈا پلوایا۔ ٹھنڈا سے یہاں مطلب اورنج ہی لیجئے ستر کروڑ کا یہ ملک کوکا کولا، پیپسی کولا، سیون اپ، کناڈا ڈرائی اور فائٹا، دو درجہ دید کے ان تمام لذائذ کو جانتا بھی نہیں۔ ان کے بغیر ہی ترقی کر رہا ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ کیسے کر رہا ہے۔ جب یہ بیرونی نعمتیں اس کے دروازے، ہانگ کائنگ اور پڑوسی جاپان تک موجود ہیں تو اپنے ہی سنگترے نہ چوڑنے پر اتنا اصرار کیوں؟

کھانے کی باتیں پھر کبھی سہی اب ذرا پینے کی بات سن لیجئے۔ عام آدمی کا مشروب گرم پانی ہے آج سے نہیں صدیوں سے۔ یا تو گھر میں پتیلا چڑھا رہے گا ورنہ بازار میں دیگ ابل رہی ہے وہاں سے دو پیسے میں بالٹی بھر والا لائے۔ طالب علم اسکول جاتا ہے یا باہر تفریح کو تو اس کے بستے کے ساتھ ایک لگا رہتا ہے۔ اس سے زیادہ عیاشی مطلوب ہے تو چند پیتاں چائے کی ڈال لیجئے اور چسکی لیتے رہے جہاں گئے اسی مشروب سے خاطر ہوئی۔

وزیر خارجہ چن ٹی نے بھی اسی سے تواضع کی اور فیکٹری مزدوروں نے بھی۔ بازار میں یہ چیز ایک پیسے کی ہے، گھر میں تو مفت ہی سمجھئے۔ اسی ایک مد میں دیکھا جائے تو ہم جو شکر اور دودھ کا جو شانہ پیتے ہیں اس کے مقابلے میں چینی لوگ سال بھر کروڑوں روپے بچاتے ہوں گے۔ ہم کالی چائے کے ریسالوگوں کے لیے البتہ ہوٹلوں میں انتظام ہے۔ آپ بلیک ٹی مع دودھ اور شکر مانگئے چینی میں اسے خونچا کہتے ہیں۔ اس ایک لفظ میں ملباری ہوٹل کی چائے کا مزہ مٹھاس اور گاڑھا پن سبھی آ جاتے ہیں۔

ریل میں ہرنشست کے ساتھ چائے کے گلاس رکھنے کی جگہ ہے۔ اکثر سینماؤں اور تھیٹروں میں کرسی کے دینے والے ہتھ کے ادراگلاس رکھنے کے لیے سوراخ بنا ہے، کام کرتے جائے اور ایک ایک گھونٹ چسکتے رہے۔ تھوڑی دیر میں کوئی آئے گا اور اس میں مزید گرم پانی ڈال جائے گا۔ معلوم ہوا کہ اس سے معدے کا نظام درست رہتا ہے۔ جراثیم کا دفعیہ بھی ہو جاتا ہے۔ کم خرچ بالائین۔ ہم نے بھی کچھ دن گرم پانی پیا۔ پھر چھوڑ دیا۔ کس برتے پر چلتا پانی۔

کھانے سے پہلے اور بعد۔ بلکہ آپ یوں بھی باہر سے آئیں تو آپ کو گرم پانی میں بھیگا ایک تولیہ یا رومال پیش کیا جائے گا۔ اس سے منہ ہاتھ پونچھئے اور تروتازہ ہو جائیے۔ یہ رواج ہم لوگوں کو بہت اچھا لگا۔ واقعی خشکی اور ماندگی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ ہمارے پیرسائیں حسام الدین راشدی صاحب نے تو کچھ تولیے وہاں سے خریدے بھی کہ وطن عزیز جا کر میں بھی یہی کیا کروں گا۔ لیکن وطن عزیز آ کر تو اور بھی بہت کچھ کرنے کا عزم ہمارے سارے ساتھیوں نے کیا تھا۔ کسی سے ایسے آثار ابھی ظاہر نہیں ہوئے۔ شاید کان نمک میں آ کر پھر سب نمک ہو گئے۔ پیر صاحب تو لیے استعمال کرنے کی حد تک ثابت قدم رہے ہوں تو شاید رہے ہوں۔

”چین والے ہماری چین زبان کی مہارت پر حیران رہ جاتے۔“

## ایک دن اردو کے طالب علموں کے ساتھ

جب ہم چین گئے تو چینی زبان سے بالکل کورے تھے لیکن ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ سترہ اٹھارہ دن بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ دو لفظ نہایت روانی سے بولنے لگے۔ ایک نی ہاؤ (یعنی مزاج شریف) دوسرا چائی چن (یعنی اچھا پھر ملیں گے) سومہان کو یہی دو لفظ آنے چاہئیں باقی گفتگو کے لیے ترجمان موجود ہے۔ ہاں یاد آیا۔ ایک اور لفظ بھی ہم پر جسے اور با موقع بول کر چینوں کو حیران کرتے تھے وہ ہے شے شے (یعنی شکریہ) بعضوں نے پوچھا بھی کہ آپ نے اتنی جلدی اتنی چینی زبان کیسے سیکھ لی۔

چند دن بعد ہم جاپان گئے۔ تو جاپانی زبان میں بھی اسی طرح مہارت حاصل کرنے کا عزم کیا۔ کیونکہ ہم کو انسانیت سے ہمیشہ شغف رہا ہے۔ افسوس کہ وہاں ہمارا قیام مختصر تھا یعنی کل آٹھ دن۔ اس کے باوجود ہم جاپانی زبان میں شکریہ ادا کرنے پر قادر ہو گئے یعنی آری گا تو گزائی مش، کا لفظ اہل زبان کی طرح بولتے تھے۔ اگر کچھ فرق تلفظ میں تھا بھی تو تھوڑا سا جھک کر سینے پر ہاتھ رکھنے سے سننے والا جان لیتا تھا کہ ہم اظہار ممنونیت کر رہے ہیں۔ ایسے بھی اعتراض کرنے والے موجود ہیں جنہوں نے کہا کہ وہ ایک ہفتے میں ایک لفظ جان لینا کیا کمال ہے ہمارے قارئین انصاف سے کہیں ان میں سے کتنوں کو معلوم تھا آری گا تو گزائی مش کا۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم چند ماہ اور وہاں رہتے تو انہیں کی زبان میں صاحب سلامت کرنے لگتے۔

ہاں تو چین میں ایسا بھی ہوا کہ ترجمان پاس نہ تھا پھر بھی ہم کو چینوں سے مکالمت میں کبھی دقت نہ ہوئی۔ ہم نی ہاؤ کہتے تھے ادھر سے چینی زبان میں کچھ ارشاد ہوتا تھا۔ ہم شے شے شے شے کرتے جاتے حتیٰ کہ اس کی بات ختم ہو جاتی اور ہم چائی چن، چائی چن کر کے رخصت ہو جاتے۔



ممکن ہے ہم چینی زبان میں مزید لیاقت بھی پیدا کرنے کی کوشش کرتے بلکہ اب یاد آتا ہے کہ ہم گرم پانی بھی چینی زبان ہی میں طلب کیا کرتے تھے اور کے سوائے کہتے تھے لیکن ڈاکٹر عالیہ امام کی مثال کو دیکھ کر ہم نے تحصیل السنہ کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ وہاں کئی ماہ سے ہیں، پیکنگ ریڈیو پر کام کرتی ہیں ایک روز تشریف لائیں تو ہم نے کہا آپ کے لیے چائے کا بندوبست کریں؟ فرمایا کرو۔ ہم نے کہا مشکل یہ ہے کہ ہم اردو میں کر سکتے ہیں۔ حد سے حد انگریزی میں۔ پیرا ہم بلائے دیتے ہیں، گفتگو آپ کیجے گا۔

پیرا آیا۔ بیگم عالیہ امام نے اپنے لکھنؤی لہجے میں بہت کچھ کہا۔ اتنا یاد ہے کہ سچ کے مرکبات تھے، پیرا کھڑا سر ہلاتا رہا اور ہم نے ازراہ تحسین عالیہ امام صاحبہ کو دیکھا بلکہ کہا بھی کہ آپ نے ایسی قابل رشک مہارت کیسے پیدا کی۔ انہوں نے بتایا کہ آدمی ذہین ہو تو چینی زبان مشکل نہیں چونکہ ہم یہ شرط پوری نہ کر سکتے تھے۔ لہذا کچھ دل گیر اور مایوس ہو گئے لیکن اتنے میں پیرا آگیا دیکھا کہ دو قد آدم گلاس دودھ کے ہیں۔ بیگم عالیہ پیرے پر بہت خفا ہوئیں کہ تم اتنی چینی زبان بھی نہیں سمجھتے کہ میں کہوں چائے تو چائے لے آؤ۔ لیکن وہ بس کھڑا ہاتھ ملاتا رہا۔ دل میں ضرور شرمندہ ہوا ہوگا۔

اردو کے مشہور ادیب خاطر غزنوی بھی وہاں ہیں اور زیادہ دنوں سے ہیں۔ ان کا کام ہی تحصیل زبان ہے تاکہ واپس آ کر یہاں چینی زبان سکھا سکیں۔ ہم نے دیکھا کہ وہ ٹیکسی والے کو سمجھا لیتے ہیں کہ کدھر چلنا ہے۔ بولے دو ڈھائی سو لفظ سیکھ گیا ہوں۔ پانچ ہزار لفظ سیکھ کر اخبار پڑھا جا سکتا ہے۔ ہم نے کہا کتنے دن لگیں گے۔ بولے شرط حیات چند برس اور۔ ہم نے کہا، خیر یہ رہا اخبار کچھ تو پڑھو۔ کافی دیر کوشش کے بعد انہوں نے کئی لفظوں پر انگلی رکھی کہ یہ آتے ہیں فی الحال خیر قطرہ قطرہ بہم شود دریا۔

پھر ایک روز ہم نے سوچا کہ دیکھیں چینی لوگ اردو سیکھتے ہیں تو کیسی سیکھتے ہیں  
اگر چینیوں کو اپنی زبان کے مشکل اور پیچیدہ ہونے پر ناز ہے۔ تو ہم کو بھی ہے۔ خیر  
ایک روز بندوبست ہوا اور ہم لوگ پیکنگ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں جانے لگے۔

پہلے تو ایک بیٹھک میں وائس چانسلر صاحب نے ہمیں شرفِ ملاقات بخشا۔ پھر  
تعارف کراتے کراتے کہا۔ یہ ہیں مادام شان یون، یہاں اردو پڑھاتی ہیں۔ ہم  
نے کہا آئیے بیگم صاحبہ ہمارے پاس آجائیے۔ وہ مسکراتی ہوئی اٹھ کر آگئیں اور  
بولیں ”آپ ابنِ انشا صاحب ہیں نا۔ آپ کی نظمیں ہم نے پڑھی ہیں۔ افکار  
ہمارے پاس آتا ہے اور آپ کی کتاب ہماری لائبریری میں ہے۔“

چائے پینے کے بعد ہم نے وہ کتابیں مذاکرہ کیں جو ہم یہاں سے لے گئے  
تھے۔ اور مادام شان یون نے کہا آئیے اب آپ کو طالب علموں سے ملائیں۔

پیکنگ یونیورسٹی ایک وسیع و عریض رقبے میں پھیلی ہوئی ہے۔ راستے میں مختلف  
شعبوں کی عمارتیں تھیں۔ ہر جگہ طالب علموں کے ٹھٹے تھے جو ہمیں دیکھ کر دو رو رو یہ  
کھڑے ہو جاتے اور تالیوں سے استقبال کرتے۔ رسم یہ ہے کہ مہمان بھی جواباً تالی  
بجاتا ہے۔ چین کے قیام کے دنوں میں ہم کو ہر روز اتنی تالیاں بجانی پڑتی تھیں کہ  
رات کو آکر ہاتھ آگ پر سینکتے تھے اور وکس کی مالش کرتے تھے۔

شعبہ اردو کے طالب علم ہمارے خیر مقدم کے لیے پہلے سے کھڑے تھے۔ ان  
میں آدھے لڑکے تھے اور آدھی لڑکیاں۔ بڑے تپاک سے علیک سلیک ہوئی۔ بعض تو  
فر فر بوتے تھے بعضے اٹک اٹک کر۔ ہم نے کہا چلے کلاس دیکھیں۔ لیکن طالب علم مصر  
تھے کہ پہلے ہم ان کی قیام گاہیں دیکھیں۔ وہاں دکھانے کی کوئی ایسی بات نہ تھی۔  
بہت چھوٹے چھوٹے کمرے تھے اور ہر ایک میں ایک دو منزلہ چار پائی۔ ایک کونے  
میں ایک میز اور کتابوں کے لیے ایک الماری۔ ایک طالب علم نیچے کی چار پائی پر سوتا  
تھا دوسرا اوپر ٹنگتا تھا۔ ویسے نرم گدے اور اجلی چادریں تھیں۔ ہم لوگ قریب قریب


سب کے سب دو کمروں میں تقسیم ہو گئے وہاں اتنی کرسیاں کہاں تھیں بس چار پائیوں پر اور میز پر چڑھ بیٹھے۔ باقی باتیں تو فروعات تھیں۔ اردو کی محبت اور شوق اصل چیز تھی۔

اکثر لڑکے لڑکیاں فر فر بوتے تھے اور سب سے تعجب کی بات یہ تھی کہ کسی سے تذکرہ و تانیث کی کوئی غلطی نہ سنی جیسی اندرون پاکستان ہم مختلف علاقوں کے لوگوں سے ضرور ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خط پختہ تھے، بعضوں کے منشیانہ اور املا میں کوئی غلطی حجب کی نہ تھی۔ ہم نے کہا پڑھتے کیا ہیں آپ لوگ۔ معلوم ہوا اچھی خاصی لائبریری اردو کتابوں کی ہے۔ اور پھر اخبار ”جنگ“ آتا ہے۔ اس میں سے مضامین ادارے یا خبریں لے کر سائیکلو اسٹائل کرائی جاتی ہیں اور طالب علموں میں بانٹ دی جاتی ہیں۔ ہم نے دیکھا تو پہلا ہی سبق صدر ایوب کے دورہ چین پر تھا۔ لائبریری میں گئے تو واقعی نئے ادب کی بہت سی اچھی کتابیں موجود تھیں اور طالب علم ہمارے بعض ہم عصروں کا ذکر ان کی کہانیوں سے کرتے تھے۔ مادام نے کہا میں آپ کی نظم شنگھائی کا ترجمہ چینی میں کر رہی ہوں۔

ہمارے وفد کے رکن جو اردو کے آدمی تھے۔ ان کی سرشاری کا بیان کرنا مشکل ہے۔ اتنی دور ایک مختلف تہذیب کے ملک میں اردو کے پودے کو پھلتے پھولتے دیکھنا واقعی ایک جذباتی تجربہ تھا۔ ہم نے مادام سے کہا کہ ان طالب علموں کو ہم چائے کی دعوت دیتے ہیں ان سب کو لائیے وہاں اور باتیں ہوں گی۔ ہم ان کو اور کتابیں دیں گے اور واپس پاکستان جا کر کتابوں کی لین ڈوری باندھ دیں گے یاد رہے کہ ایسے وعدے وفا نہیں ہوا کرتے۔

طالب تو پھر آئے اور ہمارے ساتھ چائے پی۔ ان کو کتابیں بھی ہم نے دیں، لیکن مادام کسی وجہ سے تشریف نہ لاسکیں۔ تیس برس کی ہوں گی۔ بہت پسندیدہ اطوار کی اونچیدہ۔ ہم نے کہا کہ ہماری ڈائری میں اپنے دستخط دے دیجئے۔ انہوں نے یہ

مہربانی کی کہ دستخطوں کی کے علاوہ ایک عبارت بھی لکھ دی۔ ان کا خط کم از کم ہمارے خط سے تو بہتر ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ طالب علموں نے اتنی مہارت فقط دو سال بلکہ کم میں حاصل کی تھی اور بیگم صاحبہ نے بھی اردو ایک چینی سے پڑھی ہے۔





## آپ کی عمر کیا ہے؟

دیکھنے میں یہ طالب علم لڑکے اور لڑکیاں دس بارہ چودہ سال تک کے لگتے تھے اور چونکہ انہیں اردو پڑھتے ابھی دوسرا سال تھا۔ اس لیے ان کی استعداد کا اندازہ کر کے ہم نے ان کو بچوں کی کتابیں دیں۔ بلو کا بستہ اور چاندنا را وغیرہ، ان میں لڑکیاں بھی تھیں۔ جن کو ہم ازراہ سرپرستی تھپک رہے تھے۔ اتفاقاً ایک لڑکی سے ہم نے پوچھ لیا۔ تمہاری عمر کیا ہے بیٹا؟ ایک لڑکا بول اٹھا۔ میں سال کی ہیں یہ۔ لڑکی نے فوراً تردید کی اور کہا یہ شرارت کرتا ہے جی، جھوٹ کہتا ہے، ہم نے اطمینان کا سانس لیا کہ ہمارا پہلا اندازہ درست تھا۔ تاہم احتیاطاً ان بٹیا سے پوچھا تو پھر کیا ہے تمہاری صحیح عمر؟ بولیں اب کے جون میں بائیس برس کی ہو جاؤں گی۔ ہم فوراً الگ ہو کر بیٹھ گئے اور بلو کا بستہ واپس لے کر ان کو موازنہ انیس و دہیر وغیرہ دیں۔

اس سلسلے میں ایک عجیب حادثہ ہم پر وہاں میں گزرا۔ وہ یوں کہ ہم ایک ڈراما دیکھنے گئے۔ کیا بات ہے ڈرامے کی، بہت عمرہ تھا لیکن اس کا مرکزی کردار ایک نرم و نازک استانی تھی۔ آواز چاندی کے گھونگر اور ہاتھ بائیں کوئل کچنار۔ ہم اردو کے شاعر ٹھہرے۔ دلوں کی پوٹلی ہمارے ساتھ ہی تھی۔ ایک ادھر بھی پھینکا۔ عمر اس چنچل نازکی اٹھارہ بیس ہوگی۔ چونکہ میک بھی ہوتا ہے لہذا چوبیس پچیس جانے۔ اس سے زیادہ رعایت دینی مشکل ہے۔ ہم نے دوستوں سے کہا یا رو دو روز اور وہاں میں ٹھہرو، تو اس پر ایک مثنوی سحر البیان کے فکر کی ہم لکھ جائیں۔ دوستوں نے ہمارا اشتیاق دیکھ کر اس عقیفہ کو بلا بھیجا اور اس سے ہمارا تعارف بھی کرا دیا۔ ہم نے تعریف کی کہ اے ناظورہ ولفریب تیرے انگ انگ میں جادو ہے۔ تو یوں ہے اور تو ووں ہے۔ ڈرامے میں تو نے کمال کر دیا۔

بولی۔ من آنم کہ من دانم۔ اتنے دن سے سٹیج پر کام کر رہی ہوں، اتنا بھی نہ

کروں؟

ہم نے کہا اے لعبت چین کب تو نے دلوں کو برمانے کا یہ شغل اختیار کیا تھا۔  
تھوڑا رکی۔ حساب لگا کر بولی۔ چالیس برس سے۔ بہت چھوٹی عمر پر سٹیج پر آنا شروع  
کر دیا تھا۔ اس وقت عمر اس بندی کی اڑتالیس برس دو مہینے ہے۔

ہمارا علم تو خیر سب جانتے ہیں سطحی ہے۔ تھوڑا بہت شاعری افسانہ ادب تاریخ  
پڑھ رکھا ہے۔ ریسرچ سے کبھی رغبت نہ رہی۔ مخطوطات وغیرہ کے بارے میں ہم  
کچھ نہیں جانتے۔ سوائے ایک مخطوطہ کے کسی کا بنظر غائر مطالعہ نہیں کیا اور وہ ہے  
ہمارا غیر مطبوعہ دیوان۔ لیکن ہمارے ساتھ ڈاکٹر وحید قریشی بھی تھے جو تحقیق کے مرد  
میدان ہیں اور کسی کتاب کو ہاتھ نہیں لگا لیے تا آنکہ اس کو دیمک نہ چاٹ گئی ہو۔  
شعبہ اردو کی لائبریری میں ہم نے اردو ادب کی بہت سی کتابیں دیکھیں اور خوش  
ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب سے بھی کہا آپ بھی خوش ہو جیے۔

اقبال، جوش، سرشار، شرار اور غالب سب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے کہا  
کوئی مخطوطے بھی ہیں آپ کے پاس۔ یہ لفظ چینی طالب علموں کے لیے شاید نیا تھا۔  
اس لیے ہم نے سمجھا دیں کہ وہ کتابیں جن کو یہاں نہ ملیں آخر میں مخطوطہ کہلاتی ہیں۔  
ہمارے چینی میزبانوں نے بہت معذرت کی کہ نہیں ہمارے پاس حاتم اور قاتم اور  
ولی اور پچھی نرائن شفیق کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کوئی تحریر نہیں۔ اس پر ڈاکٹر صاحب بے  
تعلق ہو کر بیٹھ گئے کہ یہ متبذل مطبوعہ کتابیں تم دیکھو۔ میرے کام کی نہیں۔

اعجاز بٹالوی نے دعویٰ کیا کہ اردو زبان چین میں عام سمجھی جاتی ہے۔ بلکہ پنجابی  
بھی۔ اس کا انھوں نے ثبوت بھی دیا، وہ یوں کہہ کھانے کا آرڈر پیرے کو اردو یا پنجابی  
میں دیتے تھے فقط..... ضرورتاً کوئی لفظ اس میں انگریزی کا آجاتا تھا۔ جیسے ہم اپنی  
روزمرہ گفتگو میں کرتے ہیں۔ مثلاً وہ پیرے سے کہتے..... بریک فاسٹ لاؤ۔ جس  
میں دو ہاف بوائے ایک ہوں، بٹر ہو، ٹوسٹ ہو اور چائے کے ساتھ ملک اور شوگر

بھی۔ آپ یقین نہیں مانیں گے۔ ہیرا نور ایہ چیزیں لے آتا تھا۔ کبھی غلطی نہ کرتا تھا۔ خود ہم نے بھی تجربہ کیا۔ ہیرے سے کہا سگریٹ لاؤ، ماچس بھی لاؤ..... اور وہ دونوں چیزیں لے آیا۔ ایک بار ہم نے خالص جالندھری لہجے میں پنجابی بھی بول دیکھی میاں ہیرے ٹی لیا تے شوگر بھی لیا تے ملک بھی لیا۔ اس نے چائے دودھ شکر سب حاضر کر دیئے۔ پیر حسام الدین راشدی صاحب نے ایک روز کھانے کی میز پر سندھی بولی۔ اس کے سمجھنے میں بھی پیروں کو کوئی وقت نہ ہوئی۔ انھوں نے اورنج مانگا۔ اور واقعی تھوڑی دیر میں سائیں ہیرا سنگترے کے رس کا ایک گلاس لے آیا۔ ہم سب نے حیرت کی۔

چینیوں کی مہمان نوازی مشہور ہے۔ ایک روز ہم ایک چینی فلم دیکھ رہے تھے۔ بڑے معرکے کی تھی۔ نہایت ڈرامائی منظر تھا کہ ہمارے ایک معمر ساتھی نے ہم کو ٹھوکا دے کر کچھ کہا ہم نے سمجھا فلم کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ہمہ تن متوجہ ہوئے۔ انھوں نے کہا مونگ پھلی کھانے کو جی چاہتا ہے۔ وہاں وطن میں بھی جب تک مونگ پھلی سے جیب نہ بھری ہو فلم نہیں دیکھتا۔ ہم نے پہلے ٹالنا چاہا۔ آخر ترجمان تک ان کی سفارش پہنچا دی کچھ وقت ترجمان کو یہ سمجھانے میں بھی لگا کہ مونگ پھلی کیا ہوتی ہے اور اس کی اسی وقت اشد ضرورت کیوں پڑ گئی ہے۔ وہ کوئی آدھ گھنٹے میں واپس آیا۔ ہم نے پوچھا دیر کیوں لگی۔ اس نے بتایا کہ یہاں تو دستور نہیں۔ لوگ بالعموم مونگ پھلی کے بغیر ہی فلم دیکھ لیتے ہیں۔ میں ٹیکسی لے کر خشک پھلوں والے بازار گیا تھا وہاں سے مونگ پھلی لی پھر ایک جگہ بھٹی پر لے جا کر اسے کھنوا یا اور یہ لیجئے۔

چین کے سفر میں ہمارے اکثر ساتھی جو فقط..... روز امرو شب ماہتاب میں سگریٹ پیتے تھے یکا یک چین سمو کر ہو گئے۔ سگریٹ سے سگریٹ سلگاتے تھے۔ دیا سلائی جلانے کی نوبت کم ہی آتی تھی۔ ان میں ایک آدھ بزرگ سے ہم نے کہا بھی

کہ تھوڑا پرہیز کریں۔ آپ کو کھانسی ہو رہی ہے۔ بولے کھانسی ہو رہی ہے تو کیا ہے؟ یہاں ڈاکٹری علاج بھی تو مفت ہے۔ یہ کہہ کر پھر ایک کش لگایا اور کھانسنے۔ کھانے کی میز پر کوئی چیز آجائے اسے واپس کرنا ہمارے بعض ساتھی آداب کے خلاف نالتے تھے۔ اگر ناشتے میں ٹوسٹ پر لگانے کے بعد مکھن بچ رہا ہے تو اسے چائے میں ڈال لیتے تھے کہ مقوی صحت ہے۔ ایک صاحب کو تو ہم نے چائے میں وہی ڈالتے بھی دیکھا۔ رات کو دودھ پینا اکثر کا معمول تھا۔ اور ایک صاحب تو تہجد کے وقت بھی اٹھ کر کھاتے تھے بلکہ کھانے کے اٹھتے تھے۔

ہمارے کوئی جسم الدین بہت دل چسپ شخصیت ہیں۔ یورپ اور امریکہ سب جگہ گھوم آئے ہیں اور بغیر بالوں میں کنگھاکے اور کوٹ پتلون کے پورے بٹن لگائے بعض اوقات ترجمان سے ایسا سوال پوچھتے تھے کہ اسے جواب دینے نہ بن پڑتی۔ بغلیں جھانکتا رہ جاتا۔ گائیڈ آخر تک ان کا مطلب نہ سمجھا۔ حالانکہ کوئی جسم الدین صاحب نے سیدھا سا سوال کیا تھا کہ یہاں ADULTERATED FOOD ملتا ہے۔؟ یعنی آٹے میں ریت، گھی میں موبل آئل، مرچوں میں براہ اور ہلدی میں پسی اینٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ گائیڈ نے کہا، میں سمجھا نہیں۔ اب ہم نے آسان ترجمہ معنی الفاظ استعمال کیے۔ MIX وغیرہ، لیکن وہ پھر بھی نہ بتا سکا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہاں یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں۔ ایک اور بزرگ نے تو شنگھائی میں یہ بھی پوچھا کہ یہاں امریکی سفارت خانہ کہاں ہے اور جب ہم وزیر خارجہ چن ٹی سے ملنے جا رہے تھے تو دریافت کیا۔

یہ چن ٹی کون صاحب ہیں؟

ہم نے کہا وزیر خارجہ ہیں۔

کہاں کے وزیر خارجہ؟

چین کے، پاکستان بھی آچکے ہیں۔



اس پر انہوں نے کہا۔ میں اخبار نہیں پڑھتا۔ اچھا کیا نام بتایا آپ نے ان کا؟  
چانگ پو؟

ہم نے کہا ”چن ٹی۔ چن ٹی۔ چن ٹی“

لیکن جب ہم ان سے مل کر آرہے تھے تب بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ چانگ پو صاحب یا جو بھی ان کا نام ہے آدمی اچھے ہیں کسی چیز کے وزیر ہیں یہ؟ پھر بتانا میں ڈاڑی میں لکھ لوں۔

ایک آدھ موقع پر ترجمانی کے فرائض اعجاز بٹالوی نے بھی سرانجام دیئے۔ حالیہ امام نے ایک جلسہ بلایا۔ مقصود ان کا ہمیں سنکیانگ کے کباب کھانا تھا۔ لیکن وہ اقبال اور نذر الاسلام کو بھی بیچ میں گھسیٹ لائیں کہ تم لوگ آئے ہو تو کچھ ان کے متعلق بھی بولو..... کوئی جسیم الدین نے اس موقع پر بتایا کہ ان کے نذر الاسلام سے کیا کیا اختلافات رہے ہیں۔ بہت عمدہ تقریر تھی۔ اس کے بعد ایک صاحب نے اقبال کے متعلق خطبہ دیا وہ انگریزی بول رہے تھے اور ترجمان کو چینی زبان میں ترجمہ کرنا تھا کیونکہ تین چار مہمان چینی بھی تھے۔ یہ صاحب بہت محبت وطن سیاسی کارکن رہے اور انگریز دشمنی کے لیے مشہور۔ انگریز تو خیر اب نہیں رہے۔ لیکن ان کی یادگار انگریزی تو موجود ہے۔ اب وہ اپنی دشمنی اس سے نکالتے ہیں اور اس صرف و نحو محاورے روزمرے وغیرہ سے ارباب وطن کی بے بسی کا انتقام لیتے ہیں۔ لہذا چینی مترجم تو تھوڑی دیر میں ہان مان کے بیٹھ گیا۔ اس نے ایسی نیشلسٹ انگریزی کہاں سنی تھی۔ پھر موضوع بھی کچھ ایسا تھا۔ فرمایا، اقبال بہت پہلے چین کے متعلق کہہ گئے ہیں کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا۔ یعنی چین پر ہمارا مسلمانوں کا حق ہے اور عرب پر بھی اور ہندوستان پر بھی۔ اس پر اعجاز بٹالوی کسمسا کراٹھے اور کہا میں وضاحت کرتا ہوں ان کا مقصد یہ ہے کہ چین ہمارا پرانا دوست ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور ہم سامراجیوں کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ اس پر سب نے خوشی سے

تالیاں بجائیں۔ جناب مقرر نے اس کے بعد روحانیت عرفان، اقبال کے تصور جنون وغیرہ کے بارے میں فصاحت کے دریا بہائے۔ لیکن چینی مہمان سوکھے ہی اٹھتے اگر اعجاز بٹالوی صاحب تو ضیح و تشریح نہ کرتے کہ روحانیت کا مطلب طبقاتی جدوجہد ہے اور جنون کا مطلب ہے سامراج کا مقابلہ اور مرد مومن اور شاہین وغیرہ پر ولتاریت کے سہل ہیں۔ بہر حال جلسہ خوش اسلوبی سے ختم ہوا اور سب نے جناب مقرر کو مبارک باد دی۔

چن ٹی صاحب خوب مزے کے آدمی ہیں۔ انھوں نے دروازے پر آکر استقبال کیا۔ اور پھر بیٹھتے ہی ہمارے قائد وفد سے پوچھا جناب مولانا، کیا عمر ہوگی آپ کی؟ پرنسپل ابراہیم خان صاحب نے کہا پچتر برس کا ہوں۔ چن ٹی بولے۔ اچھا تو آپ مجھ سے تیرہ برس بڑے ہیں۔ پھر ڈاکٹر انعام الحق سے خطاب کیا ”آپ؟“ انہوں نے بتایا کہ پینسٹھ برس، اب ہمارا نمبر تھا۔ مسکرا کر کہنے لگے تم ان سے کچھ چھوٹے معلوم ہوتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ زیادہ چھوٹا نہیں۔ حد سے حد پینتالیس چالیس برس کا فرق ہوگا۔ اس پر ہنسے۔ فرمایا ہم تو ایشیا کی روح کا اصل نمائندہ پاکستان کو جانتے ہیں، تجھی تو اس سے دوستی کی ہے۔ دوستی کا لفظ آیا ہے تو یہ جان لو کہ اس کے آداب ہم جانتے ہیں۔ آدمی رات کو بھی آواز دو تو حاضر ہیں۔

معلوم ہوتا ہے ڈپلومیسی یعنی بات گھما پھرا کے کہنے اور بگلے کو اس کی آنکھوں پر موم رکھ کر پکرنے کا فن چینی نہیں جانتے۔ آخر میں انھوں نے کہا۔ تم ادیب لوگ مجاہد ہو اپنے دل کی بات کہہ دیتے ہو۔ ہم وزیر خارجہ لوگ تو ڈپلومیٹ ہیں کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ۔ ہم دل میں شرمندہ ہوئے کہ اپنے کو خود ہی بہتر جانتے ہیں بہر حال انکسار سے مسکرا کر رہ گئے۔

ہمارے قائد وفد نے کہا۔ آپ نے ڈپلومیٹوں کے متعلق صحیح فرمایا۔ یہ منافقت پیشہ ہوتے ہیں لیکن چن ٹی صاحب! سب کے سب نہیں، بعضے وزیر خارجہ منافق

نہیں بھی ہوتے۔ اس پر چن ٹی صاحب نے قہقہہ لگایا اور کہا کدھر ہے فوٹو گرافر،  
میاں تصویریں لو ہماری، آئیے جی ایک گروپ فوٹو ہو جائے۔



## آزادی کی سخت کمی ہے

چین میں چار ہفتے کے قیام کے بعد ہم نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہاں آزادی کی سخت کمی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی جو اپنے ساتھ پان لے کر گئے تھے بار بار فرماتے تھے کہ یہ کیا ملک جہاں سڑکوں پر تھوک بھی نہیں سکتے۔ زیادہ دن یہاں رہنا پڑے تو زندگی حرام ہو جائے۔ ایک اور بزرگ نے فرمایا کہ یہاں کوئی دیوار ایسی نظر نہیں آئی جس پر لکھا ہو کہ ”یہاں پیشاب کرنا منع ہے“ جو اس امر کا بلیغ اشارہ ہوتا ہے کہ تشریف لائے آپ کی حوائج ضروریہ اور غیر ضروریہ کے لیے اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں۔ ایک صاحب شاکی تھے کہ یہاں خریداری کا لطف نہیں دوکاندار بھاؤ تاؤ نہیں کرتے۔ ہر چیز کی قیمت لکھی ہے کم کرنے کو کہیے تو مسکرا کر سر ہلا دیتے ہیں۔ ہوٹل کے بیروں کو بخششیں لینے اور مسافروں کو بخششیں دینے کی آزادی نہیں۔ بسوں اور کاروں کے اختیارات بھی بے حد محدود ہیں۔ آپ اپنی بس کو فٹ پاتھ پر نہیں چڑھا سکتے۔ نہ کسی مسافر کے اوپر سے گزار سکتے ہیں اور تو اور بجلی کے کھمبے سے ٹکرانے تک کی آزادی نہیں اور بھی کئی آزادیاں جو آزاد دنیا کا خاصہ ہیں وہاں مفقود نظر آئیں۔ گداگری ممنوع، نائٹ کلب ممنوع، جوئے پر قدغن، کام نہ کرنا اور مفت کی روٹیاں توڑنا خارج از امکان، لڑائی دنگا، چاقو زنی، اغوا وغیرہ کی وارداتیں اور خبریں نہ ہونے کے باعث اخبارات سخت پھیکے سیٹھے۔ ملک کیا ہے، اچھا خاصہ خوجہ جماعت خانہ ہے۔

ہمیں ذاتی طور پر ان آزادیوں کو برتنے کا شوق وہاں کیا ہوتا، یہاں بھی کبھی نہیں ہوا تھا۔ بس ایک دو بے ضرری رعایتیں معاشرے سے لے رکھی ہیں۔ جنہیں وقتاً فوقتاً استعمال کر لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک بھول جانے اور اپنی چیزیں کھو بیٹھنے یا چوری کرانے کی بھی ہے۔ عادت سے مجبور چین میں بھی ہم نے اس سے دریغ نہ کیا۔ پیکنگ سے چلتے وقت ہم اپنا ایک پاجامہ غسل خانہ میں لٹکا چھوڑ آئے تھے،



اس کی ہمیں ضرورت نہ تھی۔ ہمارے پاس اور پا جائے بھی تھے۔ لیکن بہر حال ہماری روایتی بھول سے ایسا ہوا۔ وہاں سے وہاں پہنچ کر ابھی ہم دم بھی نہ لینے پائے تھے کہ ہوٹل والوں نے ایک پیکٹ دیا جس میں ہمارا پاجامہ دھلا دھلایا، استری شدہ اور ایک چپل پالش اور مرمت شدہ نفاست سے لپٹی ہوئی پائی گئی۔ پاجامہ ہمارا تھا اور چپل ہمارے دوست ڈاکٹر انعام الحق کی۔ وہ بولے ارے اسے تو میں خود ہی وہاں چھوڑ آیا تھا کہ کون اسے مرمت کراتا پھرے۔ وہاں میں ہم چند پرانے رسالے اور سن ہوائیوز ایجنسی کے بیٹن چھوڑ آئے تھے۔ اس لیے کہ ہمارے کام کے نہ تھے ان کا پیکٹ بھی کینشن میں آمل۔ کینشن سے ہانگ چوریل میں آتے ہیں ہم نے ناخن کاٹنے کے لیے ایک پرانا بلیڈ استعمال کیا اور اسے وہیں میز پر پڑا چھوڑ آئے، دوسرے دن وہ ایک لفافے میں رکھا ہمیں ملا، کہ ریلوے کا ایک ملازم دے گیا ہے۔ دیکھ لیجئے آپ ہی کا ہے۔

وفد کے لیڈر ابراہیم خاں ایک روڈ ایک مل سکول دیکھنے گئے۔ وہاں ان کے فونشن پن کا کلپ یا گر گیا یا خود پھینک آئے تھے۔ وہ بھی دوسرے روز ہوٹل کے مینجر نے لاتھمایا کہ ایک سکول کے لڑکے آئے تھے اور یہ دے گئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شنگھائی سے چلتے وقت ہم کچھ چیزیں پھینک کے آنا چاہتے تھے جن میں ایک ہیر آئل کی خالی شیشی تھی۔ ان چیزوں کو ہم نے ردی ٹوکری میں ڈالا اور ہوٹل کے بیرے کو بلا کر وضاحت کی یہ کہ چیزیں ہم خود چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ مزید اطمینان کے لیے ہوٹل کے مینجر کو یہ سامان ہم نے بلا کر بتایا اور برضا و رغبت پھینکا ہے۔ یہ احتیاط اس ڈر سے کی کہ کبھی ایسا نہ ہو۔ یہ چیزیں دریافت ہوں اور ہوٹل والے ہومای اڈے کو فون کریں کہ ان لوگوں کو جہاز روک لیا جائے اور جب تک مسافر مذکور اپنی ہیر آئل کی شیشی وصول نہ کر لیں جہاز کو پاکستان جانے کی اجازت نہ دی جائے۔

تعجب ہے ان پابندیوں میں چین کے لوگ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم نے تو اس وقت اطمینان کا سانس لیا جب ڈھاکے کے ہوائی اڈے پر ہمارا ہوائی سفر کا بیگ ہمارے دیکھتے دیکھتے ہماری نظروں سے غائب ہوا۔ اور ہم سب نے مسافر خانے کی میزوں پر ایش ٹرے کے باوجود اپنے اپنے سگریٹ فرش پر پھینکے اور ہمارے دوست نے غسل خانے کی دیوار پان کی پچکاری ماری۔

”چین میں آپ کوئی چیز گم نہیں کر سکتے“



## چین میں عورتیں نہیں ہوتیں

ایک پاکستانی بزرگ چین تشریف لے گئے۔ کئی روز وہاں کوچہ و بازار میں گھومتے پھرے واپسی سے ایک روز پہلے ایک دوست سے پوچھا۔ ”کیوں جناب کیا چین میں عورتیں نہیں ہوتیں؟“

ان کے دوست نے کہا ”خیر باشد! آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ذرا اپنے سوال کی معقولیت پر غور فرمائیے۔“

کہنے لگے ”بے شک یہ میں بھی جانتا ہوں کہ عورت کے بغیر محفل ہستی کی نمود نہیں ہو سکتی۔ فی الحال انسان ڈھالنے کی مشینیں اور کارخانے نہیں بنے لیکن اگر عورتیں ہیں تو کہاں ہیں؟ کیا ان کو پردے میں رکھا جاتا ہے۔“

یہ واقعہ پکنگ کے پاکستانی سفارت خانے میں ایک صاحب نے سنایا۔ ممکن ہے یہ داستان نہ ہو زیب داستان ہو۔ لیکن مقصود ان کے کہنے کا یہ تھا کہ چین میں عورتوں اور مردوں کے لباس میں کوئی فرق نہیں۔ وہی بند گلے کی جیکٹ، وہی پتلون، ایک ساجوتا، نہ سرخی نہ لپ اسٹک، نہ بندے نہ جھومر۔ نہ غرارہ نہ ساڑھی۔ نہ دوپٹہ نہ پرس۔ یہ سب سچ ہے ہم خود جاتے ہوئے اپنی ہنڈی کرافت شباب سے موتیوں کو ایک پرس لے گئے تھے۔ خیال یہ تھا کہ کوئی بیگم ادیبہ ملیں گی یا کسی ادیب کی بیگم کو نذر کریں گے تو خوش ہوں گی۔ لیکن وہاں کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر آخر ایک پاکستانی خاتون کے حوالے کر آئے۔ وہاں تو کوئی خاتون سودا سلف لینے کو نکلے تو زیادہ سے زیادہ کپڑے کا تھیلا ساتھ ہوتا ہے اور بس۔

بائیں ہمہ یہ بات مبالغہ ہے کہ عورت اور مرد کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ حسن و رعنائی وہاں بہت ہے۔ ایسے ایسے چہرے نظر آئے کہ بس اور پھر چہروں کا حسن صحت اور شادابی سے عبارت ہوتا ہے کہ کسی مصنوعی مدد کا محتاج نہیں۔

ایک جگہ کچھ خواتین غارہ پوتے۔ بھڑکیلے لباس پہنے نظر آئیں تو تحقیق پر معلوم

ہوا کہ بے شک چینی ہیں لیکن سمندر پار کی چینی۔ سنگاپور سے سیر کے لیے یہاں آئی ہوئی ہیں۔ کسی شخص کو لاغر دیکھئے یا کسی کا پیٹ بڑھا ہوا پائے تو یہ بھید کھلے گا کہ یہاں کا متوطن نہیں۔ باہر سے آیا ہوا ہے۔ سارے چین میں کسی مرد یا عورت کو لاغر نہ پایا۔ ہسپتالوں میں بہت کم مریض ہوتے ہیں وارڈ کے وارڈ خالی پڑے رہتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا آئے۔

عورتیں دوسرے بہت سے ملکوں میں بھی کام کرتی ہیں لیکن چین کی طرح نہیں۔ کام کرنے میں عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں۔ عورتیں بھاری مشینیں چلاتی ہیں۔ کاریں اور ٹرک چلاتی ہیں دکانیں اور کارخانے چلاتی ہیں۔ کھیتوں میں ہل چلاتی ہیں۔ سڑکیں بناتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ بڑے بڑے بوجھ اٹھاتی اور کھینچتی ہیں۔

چین کی ایک بات جو ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ بھی ہے کہ ایک مرد یا عورت اتنا بوجھ کیسے کھینچ لیتی ہے جس کے لیے ہمارے ہاں گھوڑے کی ضرورت ہو۔ ایک ریڑھ حالو ہے کی سلاخوں یا سرخ اینٹوں یا اناج کی بوریوں سے لدا ہوا ہے اور ایک شخص بڑے آرام سے اسے کھینچتے یا دھکیلے جا رہا ہے اگر اتنا سامان ہو جتنا ہمارے ہاں اونٹ گاڑی میں عموماً ہوتا ہے تو ایک مرد یا عورت اسے کھینچ رہی ہوگی اور ایک یا دو اور مرد یا عورت اس کی مدد کر رہے ہوں گے۔ لیکن ہانپتے کانپتے نہیں۔ بڑے اطمینان اور آرام کے ساتھ جیسے خالی چل رہے ہوں۔ مویشی یا بار برداری کے جانور ہمیں خال خال ہی نظر آئے۔ زیادہ بھاری کاموں کے لیے ٹرک اور ٹریکٹر ہیں۔ لیکن زیادہ تر بارکشی انسان کرتے ہیں۔ بعض حالتوں میں سائیکل یا سائیکل گاڑی بھی استعمال ہوتی ہیں کارخانوں میں کام کرنے والوں میں عورتوں کا تناسب تیس پینتیس فی صد ہوتا ہے بلکہ زیادہ۔

ہسپتالوں میں تو کچھ مریض ہوتے بھی ہیں۔ عدالتیں بالکل ہی خالی رہتی ہیں۔




بعض اوقات ہفتوں کوئی کیس نہیں ہوتا۔ ایک پاکستانی دوست جو قانون سے دل چسپی رکھتے ہیں کوئی عدالت دیکھنا چاہتے تھے۔ پیکنگ کی عدالت عالیہ کے چیف جج نے کہا کہ بھیا ہمارے ہاں تو بہت دن سے کوئی کیس نہیں لگا۔ ہاں فلاں گاؤں میں ایک مقدمہ ہے وہ چل کے دیکھ لو۔ چیف جج ان کو لے کر وہاں پہنچے۔ مقدمہ طلاق کا تھا۔ ایک کارخانے کے کاریگر نے عرضی دی تھی کہ میری بیوی بہت بد مزاج ہے۔ ہت چھٹ بھی ہے تکرار اور مار پیٹ کرتی ہے۔ میری بڑھیا ماں کا خیال نہیں کرتی۔ میں اس سے علیحدگی چاہتا ہوں۔ وہاں اشخام وغیرہ کا رواج نہیں۔ سادہ کاغذ پر لکھ کر عرضی دے دیجئے یا پوسٹ کر دیجئے۔ دوسرے تیسرے روز عدالت بیٹھ جائے گی اور عموماً ایک ہی روز میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ وکیل بھی پارٹ ٹائم ہیں۔ ان کو فیس یا مشاہرہ حکومت کی طرف سے ملتا ہے۔ اور ان کا کام مدعی یا مدعا علیہ کی بے جا بیج کرنا نہیں بلکہ قانون کی تشریح کرنا ہوتا ہے۔

خیر تو یہ لوگ اس گاؤں میں پہنچے تو عدالت شروع ہو گئی تھی۔ کوئی عبا قبا نہ تھی۔ نہ اونچی کرسی نہ جج کا ہتھوڑا۔ ایک میز کے گرد جج بھی بیٹھا تھا۔ ساتھ ہی مدعی بیٹھا چائے پی رہا تھا اور سگریٹ کا دھواں اڑا رہا تھا۔ اس کے علاوہ دو آدمی اس کے کارخانے کی انتظامیہ کے بھی موجود تھے۔

دوسری طرف اس کی بیوی اور بیوی کے کارخانے والوں نے کہا یہ بی بی مزاج کی تیز ہیں۔ کبھی کبھی مغلوب الغضب ہو جاتی ہیں۔

بیوی نے اس الزام کو تسلیم کیا کہ بے شک میرا مزاج بگڑا رہتا ہے۔ لیکن میرا میاں شام کو دیر سے گھر آتا ہے۔ ڈراما دیکھنے چلا جاتا ہے یا اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے اس کی ماں کا خیال بے شک میں نے کبھی نہیں کیا۔ کیونکہ میری ماں بچپن میں انتقال کر گئی تھی۔ مجھے معلوم ہی نہیں ماں کیا ہوتی ہے۔ اب البتہ مجھے احساس ہوا ہے کہ میں غلطی پر ہوں۔ مرد نے بھی کہا کہ میں جلدی گھر آ جایا کروں

گا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے راضی نامہ ہو گیا۔ منج نے کہا میں وقتاً فوقتاً تمہارے گھر آ کر دیکھا کروں گا کہ تم لوگوں کا ایک دوسرے سے کیا سلوک ہے۔ معلوم ہوا کہ اسی نوے فیصد صورتوں میں فیصلہ راضی نامے کی صورت میں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایسا ہو تو وکیل اور ان کے دلال ہر شتہ دار اور اہلکار، عرضی نویس اور ویشہ نویس بھوکے مریں اور کل ہی ایمپلائمنٹ ایکس چینج کے سامنے قطار باندھ کھڑے نظر آئیں۔



ووہان چلو، ووہان چلو

بے عیب ذات تو خدا کی ہے لیکن افسانہ طرازی کوئی ہمارے مغربی مصنفوں سے سیکھے۔ چین کے متعلق اکیلے امریکہ میں اتنی کتابیں چھپ چکی ہیں کہ اوپر تلے رکھیں تو پہاڑ بن جائے لیکن اکثر ان میں سے واشنگٹن اور نیویارک میں بیٹھ کے لکھی گئی ہیں۔ وہاں ایسے ریسرچ کے ادارے ہیں زیادہ تر سی آئی اے کے خوان نعمت سے خوشہ چینی کرنے والے، جو آپ کی طرف سے واحد متکلم میں چشم دید حالات لکھ کر دینے کو تیار ہیں۔ آپ فقط اس پر اپنا نام دے دیجئے۔ بعضے پبلشنگ ہاؤس (مثلاً پرائیگر) تو چلتے ہی آئی سی اے کے پیسے ہیں۔ مشہور رسالہ انکا وئیر بھی انھی اداروں سے سانڈھا کٹھ رہتا ہے۔ قیمت اس کی ڈھائی تین روپے ہے۔ لیکن کراچی کے بک شالوں پر ایک روپے میں مل جاتا ہے۔ معلوم ہوا پاکستان میں علم کا نور پھیلانے کے لیے اس کی قیمت خاص طور پر رکھی گئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں سستی ہوں لیکن ایسا بھی نہیں کہ کل کلاں افیم سستی ہو جائے تو ہم کھانا شروع کر دیں اور زہر کی قیمت چوتھائی رہ جائے تو موقع سے فائدہ اٹھا کر خود کشی کر لیں۔ آٹھ آٹھ دس دس دآنے کی کتابوں کو سیلاب بھی آیا اور برابر آرہا ہے۔ جن کو سٹوڈنٹس ایڈیشن کا نام دیا جاتا ہے۔ پراپیگنڈے کی کتابوں میں چند کتابیں بے ضرر قسم کی بھی ڈال دی جاتی ہیں کہ دیکھئے ہمارا مقصد تو فقط اشاعت تعلیم ہے۔

پچھلے دنوں ایک ایسی کتاب بھی اسٹال پر دیکھی جس کے مصنف کے متعلق دعوے میں کہا گیا ہے کہ اس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کیونکہ مصنف برسوں ہانگ کانگ میں رہا ہے۔ چہ خوش۔ ہانگ کانگ میں بیٹھ کر چین کے متعلق کتاب لکھنا ایسا ہی ہے۔ جیسے کلکتے میں بیٹھ کر اورڈھا کے سے نقل مکانی کر کے آنے والے متمول مارواڑیوں سے انٹرویو کر کے پاکستان کے متعلق کوئی کتاب لکھ دے۔ چین کے کمیونوں کے متعلق ایسی ایسی ہولناکیاں کتابیں اور مضامین پڑھنے میں آئے

کہ راتوں کی نیند حرام ہو۔ مطہ صاف ہوا تو دیکھا کہ کچھ بھی نہ تھا۔ چھوٹے کوپر ٹیو اداروں کو بڑے کوپر ٹیو اداروں میں بدل دیا گیا، تاکہ وسائل ضائع نہ ہوں ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جاسکے۔ کوڑے لگا لگا کر لوگوں سے محنت لینا محض لکھنے والوں کے لیے زرخیز دماغ کی اختراع تھی۔ کیون کیا ہیں یہ ہم بھی دیکھ آئے ہیں اور ہم سے پہلے اور بعد چین جانے والے بھی۔ یہاں ٹائم، لائف اور پراپیگنڈے کے دوسرے آلات شور مچاتے رہ گئے کہ ۱۹۵۸ء میں بیک جست آگے بڑھنے کی تحریک (GREAT LEAP FORWARD) نے چین کو دس سال پیچھے پہنچا دیا ہے۔ یہ شور تھا تو معلوم ہوا کہ گراں خواب چینی بیس سال اور آگے بڑھ گئے۔ پکینگ میں دس ماہ کے عرصہ میں دس عظیم الشان عمارتوں کی تعمیر بھی اسی ”نما کام“ تحریک کے تحت تھی۔ دریائے یانگسی پر از آدم تا ایندم پل نہ بنا تھا۔ وہاں کا شاندار پل اسی جست میں بنا۔ شنگھائی کا بھاری مشینوں کا کارخانہ دیکھے تو عقل گم ہو جائے بیچ میں روس سے بگاڑ ہوا اور روسی مشین منصوبے ادھورے چھوڑ کر چین چلے گئے اور کہا جاتا ہے کہ اپنے منصوبے کے نقشے بھی ساتھ لے گئے۔ لیکن بجائے اس کے کہ چین کے لوگ بد بدل ہوتے یہ بات ان کے لیے تازیانہ شوق ثابت ہوئی۔ ٹانگک میں ۱۹۵۷ء میں چار سو کمروں کا ایک ہوٹل بنا جس کے ہاتھ روموں میں ٹائل اور ہر کمرے میں فون تھا۔ متعدد دفٹ بھی تھے۔ معلوم ہوا کہ اس کی بنیاد کھدنے سے تکمیل اور قیصے تک کل سترہ ہفتے لگے۔ اس میں وہ بڑے بڑے درخت بھی شامل تھے جو اس ہوٹل کے احاطے پر چھائے ہوئے ہیں۔

خیر ذکر کمیونوں کا تھا اور ان کے متعلق مغربی پراپیگنڈے کا۔ آج کل سرخ محافظوں یعنی ریڈ گارڈز کے متعلق جو اتنا کچھ پڑھنے کو مل رہا ہے وہ بھی گردہٹ جانے پر دیکھا چاہیے۔ حقیقت کتنی تھی اور افسانہ کس قدر، خبروں پر ہی جانا ہے تو ماؤزے تنگ کو یہ لوگ کئی بار نشانہ اجل بنا چکے ہیں۔ جہاں اس نے کسی تقریب میں



شرکت کا نافذ کیا۔ اخبارے والے بولے جناب! اب کے تو ضرور مر گیا۔ جن دنوں ہم چین میں تھے ان دنوں امریکی اور جاپانی اخباروں نے ان کو نئے سرے سے تہ تیغ کیا تھا۔ ایک جاپانی اخبار میں پبلنگ میں مقیم مغربی سفیروں کے حوالے سے یہ خبر چھپی کہ ماؤ صاحب ایک دعوت میں گئے تھے۔ وہاں ان کو کھانے میں زہر دے دیا گیا۔ دعوت میں فلاں فلاں لوگ بشمول چاؤ این لائی موجود تھے۔ ہمارے یہاں جس خبر کے متعلق ذرا سا بھی اشتباہ ہو اس کے ساتھ مبینہ وغیرہ کا لفظ لکھا جاتا ہے یا یہ تحریر ہوتا ہے کہ اس کی تصدیق تاحال نہیں ہوئی لیکن اس خبر کے ساتھ اس قسم کا کوئی تکلف نہ تھا۔

ہم نے پبلنگ میں ماؤزے تنگ صاحب سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو یہ جواب ملا کہ وہ آج کل پبلنگ میں نہیں، دیہات میں گئے ہوئے ہیں۔ ہمارا ماتھا ٹھنکا ہونہ ہو یہ بہانہ ہے۔ بڑے میاں کا وصال ہو چکا ہے۔ لیکن تھوڑے دنوں بعد ہی وہ دریائے نیلگی میں پیرا کی کرتے نظر آئے۔ اس کا جھلانا تو مشکل تھا لیکن بیمار اور قریب المرگ تو ان کو اب بھی ظاہر کیا جاسکتا تھا۔ چنانچہ ایک انگریزی روزنامے نے لکھا کہ ماؤزے تنگ میں کہاں اتنی ہمت کہ تیر سکے۔ وہ تو دو آدمی نیچے ڈبکی مارے ہوئے تھے اور ماؤ کے دونوں پاؤں کو اپنے کندھے پر اٹھائے تھے۔ ان اخبار نویسوں کو گھر تک پہنچانے میں چینیوں کو خاص مزہ آتا ہے۔ اب ماؤزے تنگ صاحب نے ہر جلسے میں شریک ہونا شروع کر دیا ہے۔ چاہے وہ کسی کے ختنے یا منگنی کی تقریب ہی کیوں نہ ہو۔

آئیے آج پبلنگ وہاں چلیں۔ یہ وہی شہر ہے جہاں ماؤزے تنگ صاحب نے پیرا کی کا مظاہرہ کر کے دشمنوں کی چھاتی پر مونگ دلا تھا۔ اور اسی شہر میں ہمارے دوستوں شوکت صدیقی اور اشفاق احمد کو ان سے شرف ملاقات حاصل ہوا۔ اشفاق صاحب نے تو سنا ہے اس شرف کو برقرار رکھنے کے اس دن کے بعد ہاتھ بھی نہیں

دھوئے۔ بس رومال باندھے رہتے ہیں کوئی بہت ہی قریبی دوست ہو تو ننگے ہاتھ سے مصافحہ کر کے لمس کا تبرک اس کو منتقل کرتے ہیں۔ خیر، یہ شہر دریائے نیلگسی پر واقع ہے۔ اور شنگھائی سے کوئی دو سو میل مغرب میں پڑتا ہوگا۔ اصل میں یہ ایک نہیں تین شہر ہیں۔ جن میں ایک ہانکو ہمارے لیے زیادہ معروف ہے، کیونکہ انگریزوں نے کمزور چینی شہنشاہوں سے زبردستی کے معاہدے کر کے جن شہروں اور بندرگاہوں کو اپنے تصرف میں لے لیا تھا۔ ان میں کنپشن، شنگھائی اور تائنسن کے علاوہ ہانکو بھی تھا۔ ہم کیم مئی کا تہوار پیکنگ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ لیکن ہم سے کہا گیا کہ سب جگہ ایک سی بات ہے۔ ووہان میں دیکھو۔ وہاں کے وائس گورنر صاحب آپ کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ احوال اس انتظار کا کچھ اس قسم کا ہے کہ ایک شاہ صاحب قبائلی علاقے میں جانکے۔ وہاں کے لوگوں نے بہت عزت و تکریم کی۔ مگر نیاز سمیٹنے کے بعد انہوں نے واپسی کی ٹھانی تو میزبانوں نے کہا واہ شاہ صاحب! اب آپ کو جانے کون دے گا۔ ہم تو آپ کو مار بیٹیں آپ کا مزار بنائیں گے۔ ہمارے گاؤں میں فی الوقت کوئی درگاہ نہیں ہے۔ بہت دور جانا پڑتا ہے۔ خیر یہ چینی لوگ ہماری درگاہ تو نہ بنانا چاہتے تھے۔ لیکن چین میں پاکستانی لوگ شاہ صاحب ہی گئے جاتے ہیں اور ان کی عزت و تکریم اسی پیمانے پر ہوتی ہے۔ پیکنگ میں تو اور بھی بہت سے پاکستانی تھے۔ ووہان والوں نے کہا کہ پاکستانی ادیبوں کو ہمارے ہاں بھیج دیجئے تو ہماری بھی عید ہو جائے۔

ووہان کا شہر سرسری گزرنے کی چیز نہیں ہے۔ اس کے در و دیوار پر انقلاب کی چھینٹیں ہیں۔ ۱۹۲۳ء تا ۱۹۲۷ء کی پہلی انقلابی سول دار میں جو چیانگ کانگ کائی شیک اور بائیں بازو والوں کے درمیان ہوئی۔ ووہان انقلابی حکومت کا مرکز تھا۔ اینالوئی اسٹراٹگ مشہور امریکی جرنلسٹ ۱۹۲۵ء میں چین کے حالات کا مطالعہ کرنے کینٹن پہنچیں تو لوگوں نے ان سے یہی کہا کہ بی بی یہاں کیا دیکھو گی، کچھ دیکھنا ہے تو

و وہاں جاؤ۔

و وہاں میں کیم منی کو ایسی سردی تھی کہ اوور کوٹ کے بغیر گزارہ نہ تھا۔ اسی وہاں کی گرمی کی شکایت شوکت صدیقی اور اشفاق احمد سے بھی سنی جو ہم سے ڈیڑھ دو ماہ بعد وہاں گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ دکھتا تنور بنا ہوا تھا۔ رات کو پیٹ پر بھیگا ہوا تولیہ رکھتے تھے تو نیند آتی تھی۔

ہمارا ہوٹل وکٹری ہوٹل اب سے چچاس برس پہلے کے یورپین طرز تعمیر کا نمونہ تھا۔ اس کے آس پاس بھی نفسی دھلی ہوئی اینٹوں کے مکانات تھے۔ ہماری کھڑکیوں میں سے دریا، دریاہیں کشتیاں اور کشتیوں میں مال اسباب ایک ساحلی شہر کا مثالی نظارہ تھا۔ اس شہر میں ہم کو کیم منی کی ریلی دیکھنی تھی۔ بھاری صنعتوں کا کارخانہ دیکھنا تھا۔ پارٹ ورک پارٹ اسٹڈی سکول دیکھنا تھا جس میں پڑھنے والے کام کرتے ہیں یا کام کرنے والے پڑھتے ہیں اور فارغ التحصیل ہوتے ہی ذمہ داری کے صنعتی کام سنبھال لیتے ہیں۔ پہلی سکیل فیکٹری بھی ہم نے عمر میں یہیں دیکھی۔ اس سے پہلے اس کے شکوہ اور وسعت کا اندازہ نہ تھا۔ لیکن سب سے پہلے ہماری آمد کی شام کو ینگس کے پل کا پروگرام تھا۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا آج تک اس باغی اور سرشور دریا پر کوئی پل نہ بن سکا تھا۔ مال سامان اور مسافروں کے علاوہ فوجوں کی آمد و رفت اور بار برداری کے لیے کشتیاں اور بجرے استعمال ہوتے تھے۔ یہ پل کوئی میل بھر لمبا ہے۔ ہم جو پل کے سرے پر پہنچے تو کاریں ٹھہر گئیں۔ پل کا محافظ یا متولی جو کچھ بھی تھا ہمارے خیر مقدم کو موجود تھا۔ اس نے ایک ایک پتیل کانچ ہمارے کوٹوں پر نازکا جس پر پل کا ایک نمونہ بنا تھا۔ اور کہا آئیے بسم اللہ۔ یہ کہہ کر وہ ایک لفٹ کے پاس لے گیا کہ صاحبان ایک پیالی چائے تو پی لیجئے۔

عین پل کے پیل پایے کے جوف میں وسیع دالانوں والی نشست گاہ تھی جس کی کھڑکیاں دریا پر کھلتی تھیں۔ یہ نشست گاہ صوفوں، قالینوں اور تصویروں سے مزین

تھ۔ حسب رواج پہلے اس پل کی تفصیل بتائی گئی کہ بہت مختصر عرصے میں بنا۔ پھر چائے آئی۔ پھر پل کی سیر ہوئی۔ پورا پل تین منزلوں میں ہے اوپر سے موٹریں ٹرک اور دوسرا ٹریفک گزرتا ہے۔ اس کے نیچے کی منزل میں ریلوے لائن ہے اور اس کے نیچے سے پانی کے جہاز گزرتے ہیں۔ کل خرچ اس پر تیرہ کروڑ روپے آیا۔ ہماری ٹیم کے ایک بزرگ اس پل کی عظمت اور شاسے ایسے متاثر ہوئے کہ میزبان سے پوچھنے لگے کہ اس پل کو جن انجینروں نے بنایا ان کا کیا حشر ہوا؟

میزبان نے تعجب سے کہا حشر؟ کیا مطلب؟

تب ان بزرگ نے وضاحت کی کہ تاج محل جن انجینروں نے بنایا بعد میں بادشاہ وقت نے ان کو مروادیا تھا۔ تاکہ ایسی اور کوئی عمارت نہ کہیں بنا دیں۔ ہمارے میزبان نے معذرت کی کہ ہم لوگوں کو اس قسم کی احتیاط کا خیال نہیں آیا بلکہ غلطی یہ ہوئی کہ ان انجینروں کو ترقی دے دی گئی اور ان لوگوں کے حوصلے ایسے بڑھے کہ انہوں نے اور کئی پل بنائے جن کی وسعت و شوکت کے سامنے یہ ہمارا پل کچھ بھی نہیں۔



## اے مرے گھوڑے آہستہ

کیم مئی کا پروگرام بہت رنگارنگ تھا۔ ایک پارک میں کسی کلچرل مرکز کی عمارت تھی۔ اس کے ایک بہت وسیع آڈیٹوریم میں لوگوں کے لی سینما کا انتظام تھا۔ کچھ ادھر مداری کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ کچھ دورے کھیل کھیل رہے تھے۔ رنگارنگ لباس، طالب علم، مزدور، غیر مزدور تیری درگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ ہم نے اپنے لیے عوامی گیتوں کے ایک پروگرام کو پسند کیا۔ مختلف علاقوں کی سنگیت منڈلیاں آئیں اور اپنے جوہر دکھا گئیں۔ ہمارے لیے ترجمے کا انتظام بھی تھا۔ گیت تو بہت تھے لیکن ایک ہمارے ایسا جی لگا کہ ہم مصرع بہ مصرع ترجمہ کرتے گئے۔ ادھر ان کا گیت ختم ہوا۔ ادھر ہمارا مکمل تھا۔ ان کو تو کیا سناتے۔ آپ کو سناتے ہیں۔ یہ عوامی گیت نئے زمانے کا ہے اور جمبول جابر کے گیتوں کی یاد دلاتا ہے۔

آہستہ  
©2002-2006

اے مرے گھوڑے آہستہ

سبزہ زار کے منظر دیکھ

موڑ دیکھ ٹریکٹر دیکھ

اجلے صاف گھروندے دیکھ

باڑیاں کھیت طویلے دیکھ

بجلی کے یہ کھمبے دیکھ

سبزہ زار کے چرواہوں کے

ہاتھوں کی محنت کے پھل

میں بھی دیکھوں تو بھی دیکھ

اے مرے گھوڑے آہستہ

آہستہ

چاروں جانب سبزہ ہے  
اس سبزے پر بھیڑیں ہیں  
بھیڑیں..... جیسے آسمان پر  
بادل سے گھر آئے ہوں

آج مرے دل میں بھی خوشیاں  
بادل بن گھر آئی ہیں  
بادل بن کر چھائی ہیں

چاروں اور سہانے منظر  
پورے پچھم دھن اتر

میں بھی دیکھوں تو بھی دیکھ  
اے مرے گھوڑے آہستہ

آہستہ

گیت تو اور بھی تھے لیکن شعریت ہمیں اسی گیت میں نظر آئی باقی کا انداز ذیل  
کے بولوں سے جان لیجئے۔

سردی سے نہیں ڈرتے

گرمی سے نہیں ڈرتے

محنت سے نہیں ڈرتے

کلفت سے نہیں ڈرتے

ہم لوگ تو جیا لے ہیں

ہاں ہمت والے ہیں

ہماری پہلی منزل پیکنگ تھی۔ وہاں جو کاریں ہماری سواری تھیں اگر پھٹ چکیں تو

کوئی ایسی عمدہ بھی نہیں تھیں۔ وہاں میں اس سے اچھی، کنیٹن میں اس سے اور بہتر، ہانگو میں اور زیادہ عمدہ شنگھائی میں نہایت شاندار اور سوچو میں کہ ہماری آخری منزل تھا یہ لگتا تھا کہ ابھی ابھی کارخانے سے آئی ہیں۔ زیادہ لوگ پیکنگ جاتے ہیں۔ بہترین کاریں وہاں رکھنی چاہئیں تھیں لیکن یہ بھی چینوں کی ایک ادا ہے۔ اگر کہو تمہارے ملک نے بہت ترقی کی ہے۔ تو وہ کہیں گے اجی کہاں ابھی تو بہت غریبی ہے ہاں کوشش کر رہے ہیں۔ پتلونوں پر لوگ پیوند لگائے پھرتے ہیں۔ یونیورسٹی میں گئے تو پیوند والے طالب علم سب سے اگلی صف میں، ڈاکٹر کے ہاں گئے تو وہ بھی بیٹھا مطب میں جھاڑو دے رہا تھا۔ پیوند اس کے بھی دونوں گھٹنوں پر تھے۔ پھر ایک دو نہیں۔ بعضوں کے لباس پر تو دس دس بیس پیوند۔ یہ بات نہیں کہ چین میں کپڑے کا توڑا ہو۔ بازار بھرے پرے، خریداروں کے نجوم، استطاعت بھی موجود ہے۔ کمیون دکھانے گئے تو بو لے کیا دیکھو گے؟ اتھے ہیں اور ایسے بھی جن میں ابھی آغاز ہے اور لوگوں کا ظاہری احوال؟ بس دیکھئے گا ہم نے کہا۔ ہمیں تو اپنا بدترین کمیون دکھاؤ۔ یہ بات کنیٹن کے نواح کی ہے شہر سے کوئی چالیس میل دور کچھ پرانے زمانے کے دیہات کا مجموعہ تھا۔ کمیون کے دفتر میں بھی دیہاتیوں نے میز کرسیاں خود ہی ٹھوک پیٹ کر بنا رکھی تھیں ایک کارخانہ چھوٹی موٹی اور صنعتی مشینیں مرمت کرنے کا بھی اسی کمیون کا حصہ ہے ایک دوسری فیکٹری میں..... اسے فیکٹری کہیے یا پڑاؤ کہیے، سینٹری پائپ وغیرہ بنتے ہیں۔ اور ان سے معقول آمدنی ہوتی ہے اس کے ایک طرف کچھ تیزاب اور دوسرے کیمیکل بنانے کی فیکٹری بھی تھی۔ آگے ایک مرغی خانہ تھا۔ بڑی موٹی اور مسٹنڈی مرغیاں تھیں۔ ہمارے ہمسائے میں ہوتیں تو ہم کبھی نہ چھوڑتے، ضرور چرا کر احباب کی دعوت کرتے۔ ایک طرف گائے بھینسوں کا باڑہ تھا۔ ہمارے کوہ جسیم الدین تو وہیں ڈیرہ ڈال کر بیٹھ گئے۔ ایک گائے کو انہوں نے دوہا بھی۔ ان کا دودھ پوچھا، کتنا دیتی ہیں؟ اور آیا خالص بھی ہوتا ہے؟ ہمارے کوئی

جی رہتے ڈھا کے شہر میں ہیں اور یورپ، امریکہ سب جگہ گھوم آئے ہیں لیکن دل ان کا دیہات میں ہے۔ ہم ڈھا کے جائیں تو ہماری گڑ کی دعوت کرتے ہیں اور گھر کو انہوں نے مویشیوں کا باڑا بنا رکھا ہے۔ پچھلے آنگن میں پورا گلہ کھڑا ہے اور چونکہ ان کے ٹائیلٹ کا انتظام ایسا ہی ہے جیسا بالعموم ہمارے ہاں ہوتا ہے اس لیے ان کا ہی نہیں، سارے محلے والوں کا مشام جاں ہمیشہ معطر رہتا ہے۔ خیر تو قصہ یہ کہ کوئی جسیم الدین صاحب کو ان گائیوں سے بچرا الگ کرنا پڑا۔ پھر بھی ان کی نگاہ واپس میں کچھ اسی قسم کی فریاد تھی۔ مینوں لے چلے باب بلاے چلے وے۔

ان کارخانوں میں بھی لوگوں کے کپڑے صاف بے شک تھے۔ لیکن موٹے جھوٹے اور نیلے بدرنگ خیر نیلا تو ان لوگوں کو قومی رنگ ٹھہرا۔ اب ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈیوں سے بچ کر گاؤں میں گئے۔ ارشاد ہوا کہ جس گھر میں چاہو جاؤ۔ اچھے برے ہر طرح کے مکانات تھے۔ گھروں میں زیادہ تر بڑھائیں تھیں یا چھوٹے بچے۔ بڑی خندہ پیشانی سے گھر کے اندر لے جاتیں، پرانے گھر تھے۔ ایک بڑھیا نے بتایا کہ انقلاب سے پہلے تو ہمارے پاس گھر تھے ہی نہیں۔ بس بیگاری مزدوروں کی زندگی تھی۔ یہ سارے گھر زمینداروں کی ملکیت تھے۔ لیکن اب تو ہمارے ہیں۔ یہ فصلیں اور کھیت بھی۔ جوان بیٹے اور بہوئیں کام پر کھیتوں میں گئی ہوئی تھیں۔ ایک پڑوس کی بڑھیا اس گھر میں چاول کوٹنے آئی تھی۔ ہمارے دیہات کی گھر گھر کرنے والی چکیاں جن پر گھر کی بی بی تر کے ہی اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور جس کی سریلی آواز ہمارے لیے لوری کا کام دیتی تھی۔ ان چینی دیہات کے لیے بڑی ترقی یافتہ مشین شمار ہوگی کیونکہ یہ تو ایک گڑھا تھا جس میں لکڑی کا ایک ہتھوڑا جا کر پڑتا تھا اور ڈھینگی کے اس سرے پر ایک عورت اسے دباتی اور چھوڑتی تھی اور ایک لمبی لٹھیا سے چاولوں کو الٹی پلٹی تھی تاکہ ہتھوڑے کے نیچے آتے جائیں۔ ہمارے مشرقی پاکستان میں اب بھی دھان یونہی کوٹا جاتا ہے۔ خیر ایک طرف یہ تھا اس کے برابر ہی



باورچی خانہ۔ اسی کمرے میں ایک طرف کو چھوٹی سی چارنٹ اونچی دیوار کھینچ کر سور کا باڑہ بنا رکھا تھا۔ خواب گاہ البتہ الگ تھی اور سارے گھر میں سب سے اچھی وہی ہوتی ہے چھپر کھٹ ہر گھر میں۔ اوپر چھت ادھر ادھر کھینچنے کے لیے پردے، اندر تخت۔ اس پر بیل بوٹے دار فرش جو کیفیت اس گھر کی قریب قریب ویسی ہی دوسرے گھر کی۔ باہر سے یہ گاؤں ہمارے ہی دیہات کا سا تھا اور اندر گلیاں بھی۔

اس کمیون کے بعد اور بھی کمیون دو تین دیکھے لیکن باقی سب کا احوال ان سے کہیں اچھا۔ ترقی یافتہ، ایک بار تو یہ خیال بھی ہوا کہ جس طرح چینی عورتیں اپنی عمر زیادہ کر کے بتاتی ہیں اسی طرح غیر ملکوں کو دکھانے کے لیے ان لوگوں نے کچھ کمیونوں میں غریبی کے حالات رکھ چھوڑے ہیں۔ واللہ اعلم

All rights reserved.

©2002-2006

## تنخواہ ہماری زیادہ ہے

چینیوں کو یہ تو معلوم ہی تھا کہ ہم شاعر ہیں اب کیسے شاعر ہیں اس سے کسی کو کیا بحث بہر حال اس کا التزام رکھتے ہوئے ہمارے ترجمان ایسے مقرر کئے جو سمجھی ہم قافیہ تھے۔ ایک ان میں مسٹر کو، ایک چو، ایک نو اور ایک شو۔ ہمارے لیے مشکل یہ تھی کہ کس کو کس نام سے پکاریں سب گڑبڑ ہو جاتا تھا۔ باقی تو سب انگریزی کے تھے، مسٹر کو البتہ اردو بھی بولتے تھے۔ اور انگریزی بھی۔ اردو بولتے تھے سہج لیکن صحیح۔ زبان کا اشتراک بھی عجیب چیز ہے۔ ہماری ان سے فوراً دوستی ہو گئی۔ دیوار چین سے واپس آتے ہیں یہ ہمارے اور سید وقار عظیم کے ساتھ بیٹھے۔ ہم نے پوچھا میاں تنخواہ کیا ہے بولے ساٹھ یوان۔ یعنی ایک سو بیس روپے۔ ہم نے کہا گزارہ کیسے ہوتا ہے۔ بولے مزے میں ہوتا ہے۔ یہ پورا سوٹ، بش، شرٹ اور پتلون تیرہ روپے کا ہے مکان کا کرایہ پانچ روپے، بجلی پانی سب اس میں شامل! ہم نے کہا تنہا رہتے ہو؟ بولے نہیں دو کمرے کافلیٹ ہے ایک اور صاحبہ میرے ساتھ رہتی ہے وہ کون ہیں؟ ہم نے پوچھا بولے ایک سکول میں استانی ہیں۔ ہم سوچا لیجئے بے راہ روی کی ایک مثال تو سامنے آئی، رازداری سے پوچھا۔ میاں اس سے عشق و شوق بھی چھاڑتے ہو گے، آخر نو جوان آدمی ہو، شرما کر بولا جی ہاں جھاڑتا ہوں وہ میری بیوی ہے۔

ہمت تیرے کی، کہہ کر ہم تو چپ ہو گئے۔ وقار عظیم صاحب نے پوچھا کہ شادی کیسے ہوئی تھی؟ کتنے گہنے ڈالے گئے؟ کتنا جہیز دلہن کے والدین نے دیا، آرسی مصحف، چوتھی چالے وغیرہ کی تفصیل بتاؤ۔ وہ حیران ہو کر بولا۔ یہ کیا چیزیں ہیں یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ ہم نے پوچھا کل کتنا خرچ تمہاری شادی خانہ آبادی پر ہوا؟

حساب لگا کر بولا۔ بس پچاس یوان یعنی سو روپے کے لگ بھگ، اس میں آدھا میں نے ڈالا اور آدھا میری بیوی نے۔ سید وقار عظیم بولے: قاضی کی فیس بھی اس میں شامل ہے۔ کو صاحب نے کہا۔ نہ قاضی نہ فیس۔ ایک شخص ہے اسے رجسٹرار کہہ

لیجئے۔ اس کے دفتر میں جا کر کہا کہ ہمیں رشتہ مناکحت میں باندھ دیجئے۔ اس نے میرے اور میری بیوی کے کارخانوں کے منجروں سے چال چلن کی تصدیق کی اور ہمارے حق میں دعائے غیر کی۔ بس شادی ہو گئی۔ ہم نے کہا پھر یہ اتنا زرخیر..... سو روپے کس بات پر خرچ آئے؟ بولے وہ؟ اجی ایک جوڑا اپنا بنایا ایک دلہن کو دیا۔ میرا جوڑا انہوں نے بنوایا۔ ان کا میں نے۔ اس کے بعد ہم نے دعوت کی۔ لوگوں کو مٹھائی کھلائی۔ ہم نے پوچھا دلہن کے والدین اور ظالم سماج کا اس کہانی میں ذکر نہیں آیا۔ کو نے کہا..... ظالم سماج کو تو میں نہیں جانتا کون صاحب ہیں۔ ہاں ان کے والدین سے رضا مندی ضرور لی تھی۔ ہمارے ہاں بالعموم لی جاتی ہے اور وہ عموماً اجازت دے ہی دیتے ہیں۔

چو سے ہم نے ایک موقع پر احوال پوچھا تو وہ بولا کہ میرا باپ فلاں شہر میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ ساتھ یوان یعنی ایک سو بیس روپے تنخواہ پاتا ہے۔ میں خود چھپن یوان لیتا ہوں، اور میرا چھوٹا بھائی بتیس یوان پاتا ہے لیکن وہ ابھی اپرنٹس ہے۔ ہم نے پوچھا کچھ گھر بھی بھیجتے ہو؟ کہنے لگا ہاں ماں کو پیسے بھیجتا ہوں اور پڑھتا بھی ہوں بی اے پاس کر لیا ہے۔ ہم نے کہا اس کا بھی خاصا خرچ ہوگا؟ معلوم ہوا اس کا کچھ خرچ نہیں۔ پڑھائی مفت ہے۔

شو بہت اچھا آدمی تھا ہنس مکھ، تیز طرار، لیکن فوڈ رومانی تھا۔ خدا جانے پیر حسام الدین راشدی صاحب نے کیسے تاڑ لیا کہ مریض عشق ہے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا تو اس نے سب اگل دیا کہ ہاں اس کے دل کے جھروکے میں اک روپ کی رانی ہے۔ ہم تو خیر دیگر علوم کی طرح اس میں بھی کورے تھے لیکن ہانگ چو کی جھیل پر چودھویں کی رات کو بارہ بجے پیر صاحب اور اعجاز بٹالوی نے اس کو حافظ اور میر کے اشعار کے حوالوں سے ایسے ایسے گرتائے کہ اے کاش ہمیں بتائے ہوتے یا ان صاحبوں نے خود بھی استعمال کیے ہوتے۔ جب ہم نے اسے چھوڑا ہے تو محبت کے

اثر سے بالکل ہم ایسا ہو گیا تھا۔ آپہں بھرتا تھا پر درد اشعار پڑھتا تھا۔ رات رات بھر جاگتا تھا۔ غالباً پیر صاحب نے اسے کوئی وظیفہ بھی بتایا تھا اور تعویذ بھی دیا تھا۔ ہم نے مزید تحقیق نہیں کی لیکن یہ سچ ہے کہ ازکار رفتہ ہو گیا تھا۔

آج ہمارا موضوع تنخواہ ہے عاشقی نہیں۔ ہاں رنگ طبیعت کی مناسبت سے بات لمبی کر گئے۔ وہاں میں ہم نے بھاری مشینوں کا ایک جغادری کارخانہ دیکھا۔ فرلانگوں لمبی، دیوہیکل عمارتوں میں دیوہیکل مشینیں بھری تھیں۔ کل کام کرنے والوں کی تعداد سات ہزار ہے اور یہ ایک فیکٹری دراصل بیس فیکٹریوں کا مجموعہ ہے۔ ان سات ہزار میں سولہ سو عورتیں اور اوسط عمر ۲۷ سال، باقی تفصیلات جانتی ہوں تو ہمارے دوست ڈاکٹر وحید قریشی سے رجوع کیجئے۔ وہ ریسرچ کے آدمی ہیں اگر کوئی آدمی چھینکتا بھی تھا تو وہ اس میں نوٹ کر لیتے تھے۔

پاس ہی فولاد کا کارخانہ تھا۔ یہ بھی دیکھنے کی چیز تھا۔ لوہا پکھلتا، ڈھلتا، ضربیں کھاتا ٹھنڈا ہوتا اور غلام بنتا سب دیکھا۔ اس میں ساڑھے تین ہزار آدمی کام کرتے ہیں۔ وسط تنخواہ ۶۵ یوان یعنی ایک سو تیس روپے ہے۔ ڈائریکٹر کروڈیڑھ سو یوان ملتے ہیں۔ ہم نے پوچھا سب سے زیادہ تنخواہ کون پاتا ہے یہاں؟..... معلوم ہوا منیجر صاحب ہیں۔ ایک سو اسی یوان لیتے ہیں۔ پتہ چلا کہ چواین لائی اور لیوشاؤچی کی تنخواہیں ساڑھے تین سو یوان فی کس ہیں۔ صدر ماؤزے تنگ البتہ بیش قرار مشاہرہ پاتے تھے۔ چار سو یوان۔ پچھلے دنوں جانے ان کے جی کیا آئی کہ کہہ دیا مجھے اتنے کی ضرورت نہیں۔ غیر ملکی مہمانوں کو کھلا پلا کر بھی کچھ بچ رہتے ہیں چنانچہ ان کی بھی ساڑھے تین سو یوان کردی گئی ہے۔

معلوم ہوا کہ یہاں لوگ تنخواہ خود ہی گھٹاتے بڑھاتے ہیں۔ جب کسی کے کوئی بچہ ہو یا کوئی اور خرچ بڑھاتو کارخانے یا اس شعبہ کے لوگ جلسہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بھئی ان صاحب کی پگار بڑھاؤ چنانچہ بڑھ جاتی ہے۔ یہاں آکر ہم نے اپنی



بہن سے ذکر کیا تو بولیں واہ یہ چین ہے جس کی آپ اتنی تعریفیں کرتے ہیں۔  
ماؤزے تنگ سے زیادہ تو تنخواہ آپ ہی کی ہے۔ ہم نے کہا۔ ہم سے زیادہ تنخواہ  
فلاں صاحب کی نہیں کیا؟ حالانکہ وہ ہم سے بھی زیادہ مالاً نکت ہیں۔ اس پر وہ چپ ہو  
گئیں۔

کھانے تو ہم نے بہت کھائے۔ ایک سے ایک پر تکلف سولہ سولہ کورسوں کے  
قدحے میز پر آتے تھے لیکن جو مزہ اس قتبے کے نمکین مسالے دار بند میں آیا جو ہم نے  
ووہان کی ایک اسٹیل فیکٹری میں مزدوروں کی کینٹین سے ایک آنے میں خرید کر کھلایا  
اس کا مزہ کبھی نہ بھولے گا۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ لوگ کیا کھاتے ہیں اس ایک  
بند میں خوشبو، لذت بھی کچھ بند تھا۔ ایک پیالہ سوپ کا اور اس کے ساتھ ایک آنے کا  
بند۔ آپ بہت کھانے والے ہیں تو دو لے لیجئے چاول بھی لے سکتے ہیں۔ یہاں بھی  
گرم پانی کی ٹنکی چڑھی تھی، کھاتے جاؤ اور اپنے اپنے بھر کے پیتے جاؤ۔

چین میں یہ لوگ اتنے محتاط تھے کہ ہمارے لیے کچن ہی الگ ہوتا تھا۔ جہاں کسی  
نے گفتگو میں سور کا نام لیا۔ انہوں نے کان پر ہاتھ رکھا۔ نہ نہ مسلمان، اسلام۔ یہ تو  
کھانے کی بات ہے۔ فلیکس گرین نے ایک کارخانے میں دیکھا کہ اس کے ہمیر  
کننگ سیلون میں مسلمانوں کے لیے تو لیے الگ قینچیاں الگ، استرے الگ۔ کیا  
مجال جو کسی اور کا استرا کسی مسلمان کے بالوں کو چھو جائے۔ شہرت یہ ہے کہ مسلمان  
بہت صفائی پسند ہوتے ہیں یہ سچ ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے ورنہ.....

## اب آپ ماؤزے تنگ کا کلام سنئے

قارئین کرام اب آپ صدر ماؤزے تنگ کا کلام ملاحظہ فرمائیے۔ نئے چین کی شاعری میں اگر کہیں لطافت ہنرمی اور روحانیت ملتی ہے تو فقط چیئر مین ماؤ کے ہاں۔ یہ ان کی اس دس مشہور نظموں میں سے سات ہیں جو پچھلے دنوں بڑی آب و تاب سے چین کے سرکاری پبلشنگ ہاؤس نے چھاپی ہیں۔

### پریوں کی گچھا

(پریوں کی گچھا، لوشان کے پہاڑ پر ایک خوش منظر جگہ ہے)  
رنگا ڈالے شفق شام نے شمشاد کے پیڑ  
اُپر خاموش کے لئے ہیں فضاؤں میں رواں  
روپ قدرت کا ہے ہے پریوں کی گچھا میں مرکوز  
قلہ کوہ پر ہے حسن یہاں، حسن وہاں

(۹ ستمبر ۱۹۶۱ء)

### ملیشیا دستوں کی اڑکیاں

(ایک تصویر آئوگراف)

روشن چہرے، بڑی دلاور، لائبریری رفلش شانوں پر  
صبح پریڈ کے میدانوں میں چین کی بیٹیاں آتی ہیں  
اطلس سے یا نرم اور نازک ریشم سے انہیں کیا لینا  
دل والی ہیں اور دل اپنی دردی ہی سے لگاتی ہیں

(فروری ۱۹۶۱ء)

### سرمہ کے بادل

جاڑے کے بادلوں پر جمی ہے مہین برف  
جیسے کہ اڑتے پھرتے ہوں گالے کپاس کے

پیڑوں کے پھول جھڑ چکے، باقی ہے ایک آدھ  
ٹھنڈی ہوائیں چرتی ہیں سینہ فضا  
گرمی ہے ایک دھرتی کے انفاس نرم میں  
باگھوں سے کب ڈرے ہیں ہمارے جوی جواں  
چیتے ہوں یا کہ ریچھ ہوں ان کا بھی منہ کہاں  
طوفان بادِ سرد میں غنچے تو خوش رہیں  
طوفان بادِ سرد سے مرتی ہیں کھیاں

(۲۶ دسمبر ۱۹۶۲ء)

### ایک دوست کے خط کے جواب میں،

چٹے بادل تیر رہے ہیں کیوی کوہ کہ چوٹی پر  
قلہ سبز سے دوش ہوا پر راج ماریاں اتری ہیں  
بانسوں کے پیڑوں پر اب بھی داغ ہیں ان کے اشکوں کے  
لیکن اب تو ان کے روشن اور چمکیلے پیرا ہن  
آسمان کے لال گلابی بادلوں کو بھی شرمائیں  
جھیل میں سرکش بریلی موجوں نے دھوم مچائی ہے  
دریا کا نا پو بھی اب تو  
دھرتی کے دہلانے والے گیتوں سے گونج اٹھا ہے  
اور میں سپنوں کی دھرتی کے سپنوں میں جس کو  
صبح کو سورج کی کرنوں کی جوت سدا روشن رکھتی ہے۔

(۱۹۶۱ء)

## لوشان پر بت پر چڑھ کر

(یہ کیا نگسی صوبے کا ایک ٹھنڈا پہاڑ ہے)

یہی دریا اس اونچے پر بت کے نیچے بہتا ہے  
جس کی تیکھی نگریں چڑھتا میں چوٹی پر پہنچا ہوں  
اور چوٹی کے اوپر دیکھو ہرے بھرے ان پودوں کو  
میری نظریں سات سمندر پار یہاں سے جاتی ہیں  
گرم ہوائیں مینہ کی بوندیں پانیوں پر ٹپکاتی ہیں  
توندیوں میں سمندر پہلے سارس تیر رہے ہیں  
ان کے سر پر بادل دیکھ  
جھاگ اڑاتی موجوں کی پورب کے تپ پاپل دیکھ  
تاؤ چودھری کہاں گیا، کون پتا بتلائے گا  
دیس میں شاید آلوچوں کی گلیوں کے، وہ جائے گا  
فصلیں نئی اگائے گا۔

ظالم ہاتھ زمینداروں کے کوڑے جبہراتے تھے  
ہاں اس جنم بھوم میں بیری، کیا کیا ظلم کراتے تھے  
لال پھریرے آن جگایا محنت کش دہقانوں کو  
قربانی نے نیا ارادہ بخشا سوختہ جانوں کو

آج انہی نے سورج چاند سے انبر نئے بسائے ہیں  
دیہاتوں میں دھان اور مکا کھیت کھیت لہرائے ہیں  
پہلی شام کی دھند کے اندر

گھر لوٹنے والے جری جوانوں ہی کے سائے ہیں

(یہ نوندیاں دریائے نیگسی کی شاخیں ہیں۔ تاؤ چودھری (تاؤ یوان مینگ



(۳۶۵ء۔۴۲۷ء) ایک دہقانی شاعر تھا اور علاقے کا عہدے دار۔ عہدے داری  
اس نے تاج دی اور جوگ لے لیا)

## جب انقلابی فوجوں نے ناننگ آزاد کرایا

چنگشان کو آج اک بھرے طوفان نے آگھیرا ہے

فوج نے اپنی دریا کے اس پار تارا ڈیرا ہے

دیکھو دیکھو شہر کو دیکھو

بیٹھا بگھ مچلتا ناگ

عظمت رفتہ جس نے اپنی پالی ہے

بلکہ اور بڑھالی ہے

دھرتی انبر فتح کا ڈیکان کر کیسے دے لے ہیں

اے بلوانو۔ ہم کو کچی شہرت نہیں ملنا ہے

بھاگنے والے دشمن کا اب نام و نشان ملنا ہے

قدرت بھی گر جاندار ہو۔ اس کا جو بن ڈھل جائے

لیکن انسان کی دنیا میں

ساگر بھی شہوت کی باڑی بن جائے اور پھل جائے

(اپریل ۱۹۴۹ء)

(چنگشان پہاڑی ہے ناننگ کے مشرق میں جو چیانگ کانگ کا شیک کا

دارالحکومت تھا۔ شہوت کی باڑی کی حکایت یہ ہے کہ ایک چینی خاتون نے ایک

زمانے میں اتنی عمر پائی کہ اس نے سمندروں کو خشک ہوتے اور ان کی جگہ شہوت کی

باڑیاں لہراتے دیکھا)

## بابا قربان تو لوم کی کہانی

سکيا نگ تو ہم جانہ سکے۔ کیونکہ معلوم ہوا رستہ لمبا اور دشوار گزار ہے۔ ہوائی جہاز میں بھی جائیں تو کئی دن لگیں گے، ادھر ہمارے وفد کے اکثر لوگ مصروف آدمی تھے، اپنے کالجوں، یونیورسٹیوں اور دفتر سے محدود چھٹیاں لے کر آئے تھے۔ ہاں اس کی تلافی کی صورت یوں نکلی کہ ڈاکٹر عالیہ امام نے ہمیں پیکنگ کے سکيا نگ ریسٹوران میں کھانا کھلایا اور قومیتوں کے محل میں ہم نے سکيا نگ کا ایوان دیکھا اور بی بی رسالت سے باتیں کیں۔

کھانا تو وہی پلاؤ اور کباب وغیرہ تھے جس سے پہلے اقبال اور نذر الاسلام کے بارے میں غالب اینڈ گوئے قسم کی تقریریں ہوئیں اور ہمارا کلام بھی سنا گیا جس میں ہم پر دو سانحے گزرے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے اپنی طرف سے اپنی اچھی اچھی آسان آسان غزلیں پڑھیں، لیکن کسی نے ایک حرف داؤ کا نہ دیا۔ منہ میں گھنگھنیاں ڈالے بیٹھے رہے۔ دوسرے یہ کہ جب ہم تھک ہار کے اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئے تو ایک پاکستانی بیگم نے ازراہ اخلاق ہماری طری جھک کر پوچھا۔ کہ یہ غزلیں جو آپ نے پڑھیں آپ کی اپنی تھیں؟ کیا آپ شعر کہتے ہیں؟

قومیتوں کا محل ہمارے ہوٹل کے ساتھ ہی ملا ہوا تھا جس کا نام قومیتوں کا ہوٹل ہے۔ چین میں کوئی باون قومیتیں ہیں۔ اصلی چینی قوم ہان کہلاتی ہے اور انھی کی زبان ہان دنیا میں چینی زبان مشہور ہے۔ ہان کے علاوہ جو قومیتیں یا اقلیتیں ہیں وہ آبادی سے تو چھ فی صد سے زیادہ نہیں لیکن چین کے ساٹھ فی صد رقبے پر چھائی ہوئی ہیں۔ ان میں سے بہت سی مسلمان ہیں بلکہ خود ہان قوم میں بھی مسلمان ہیں جو ہوئی کہلاتے ہیں۔ سکيا نگ کے مسلمانوں میں سے کچھ تاجیک ہیں، کچھ ایغور، کچھ کرغیز، کچھ قزاق اور کچھ ازبک، یہ علاقہ چینی ترکستان کہلاتا تھا اور اس کی سرحدیں روسی ترکستان سے ملتی ہے۔ انہی قومیتوں کے لوگ سرحد کے اس پار بھی رہتے ہیں۔

تقسیم سیاسی اور جغرافیائی ہے۔

قومیتوں کے محل میں تمام اکثر اہم اقلیتوں کے لیے ایک ایک ایوان مخصوص ہے جہاں ان کے لباس اور ان کی معاشرت کے نقوش محفوظ ہیں۔ یہیں ان کی تاریخ بھی تصویروں میں رقم ہے اور آج کل کی ترقی کے نقشے بھی، ہمارے پاس وقت زیادہ نہ تھا۔ اس لیے فقط سکینا نگ اور تبت کے ایوان دیکھے۔ اس عمارت کی خوب صورتی اور شکوہ کا ذکر کیا کیجئے۔ یہ بھی ان دس عمارتوں میں سے ہے جو انقلاب کے دسویں برس دس ماہ کی مدت میں تعمیر ہوئیں۔ نہایت مجلا پتھروں کے فرش اور ستون۔ پہلی منزل پر جا کر داہنے ہاتھ کو پہلا ایوان سکینا نگ کا ہے۔ رسالت نام کی ایک چھوٹی سی لڑکی نے جس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی چھڑی تھی جس نے دو چوٹیاں کر کے شانوں پر ڈال رکھی تھیں، ہمارا خیر مقدم کیا اور اس کے بعد فرم تقریر شروع کی۔ یہ تقریر اس بارے میں تھی کہ انقلاب سے پہلے مستبد امیروں کے عہد میں وہاں کے عوام کے کیا حال تھا۔ خود کو حرم بنا کر عیش کرتے تھے اور عام لوگوں کو بکریوں کا دودھ بمشکل ملتا تھا۔ زمین کے بھی وہ مالک نہ تھے، رعیت تھے اور تعلیم کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ پیداوار بھی یونہی سی تھی۔ اب وہاں سارے علاقے میں اسکولوں کا جال بچھا ہے۔ کارخانے ہی کارخانے ہیں اور اجتماعی کھیت سونا اگتے ہیں، پہلے ایک جگہ ہم نے سکینا نگ کے ایک گیت کا ذکر کیا ہے:

اے مرے گھوڑے آہستہ

سبززار کے منظر دیکھ      موڑ دیکھ ٹریکٹر دیکھ

باڑیاں کھیت طویلے دیکھ      بجلی کے یہ کھمبے دیکھ

اے مرے گھوڑے آہستہ

اس گیت میں سکینا نگ کے عوام کا احساس آزادی اور احساس فراغت بسا ہوا ہے۔ پھلوں، فصلوں اور معدنیات کی بہار ہے۔ سکینا نگ کا رقبہ انگلستان، فرانس اور

جرمنی کے مجموعی رقبے سے بھی زیادہ ہے۔ اور ارپچی، سنکیانگ کا دارالحکومت پیکنگ سے کوئی تین ہزار میل کے فاصلے پر ہے۔ کرمانی کے علاقے میں جوتیل کا مرکز دریافت ہوا ہے۔ وہ چین بھر میں سب سے بڑا ہے۔

بی بی رسالت نے کیا کیا کچھ فرمایا یہ تو ہم بھول گئے ہاں وہاں شیشے کے شوکیس میں انھوں نے کمیونوں کے جو ماڈل بنا رکھے ہیں، ان کی سرسبزی اور شادابی اب تک آنکھوں میں ہے۔ رسالت ایک مقامی کالج میں پڑھتی ہیں اور ہاسٹل میں رہتی ہیں۔ اس کے والدین سنکیانگ کے کھیتوں میں کام کرتے ہیں۔ زبان اور قومیت رسالت کی ایغور ہے۔ جو سنکیانگ کی اکثریتی قومیت ہے۔ بابا قربان تو لوم جن کا نام سب جانتے ہیں اور جن کی چیئر مین ماؤ زے تنگ سے ملنے کی تمنا اسی سال کی عمر میں ۱۹۵۸ء میں پوری ہوئی اسی قوم سے ہیں۔

ان کی کہانی بھی ایک مثالی کہانی ہے۔ انقلاب کے وقت ان کا کوئی اثاثہ کچھ بھی تھا، نہ مکان، نہ زمین، نہ مویشی۔ فقط ایک پٹنا کپیل اور پتیل کی ایک ٹوٹی کیتلی۔ قرض کا بار اس پر مستزاد۔

۱۹۵۲ء کی زرعی اصلاحات میں ان کو کچھ زمین ملی اور ایک مکان رہنے کو، اس کے بعد انہوں نے کچھ لوگوں سے مل کر امداد باہمی کی ایک ٹیم بنائی اور یوں ان کی زندگی میں پہلی بار خوشی اور خوشحالی کا عمل دخل ہوا۔ قربان تو لوم کو یہ معلوم نہ تھا کہ پیکنگ کتنی دور ہے لیکن چیئر مین ماؤ کی زیارت وہ ضرور کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن تڑکے ہی اس نے اپنی بیوی سے پراٹھے پکوائے اور گدھے پر زین کس کر پیکنگ کی طرف کو روانہ ہو۔ کوئی پچاس ساٹھ میل گیا ہو گا کہ اسے کچھ لوگ ملے۔ جنہوں نے بتایا کہ پیکنگ تین ہزار میل دور ہے اور گدھا وہاں تک نہیں جاسکتا۔ واپس آ کر انہوں نے کسی سے چیئر مین ماؤ کے نام چٹھی لکھوائی جس کا جواب جلد ہی مل گیا۔ ماؤ صاحب نے اسے اپنی ایک تصویر بھیجی اور خیریت پوچھی۔ قربان تو لوم کا حوصلہ بڑھا



اور اس نے جا بجا ادا باہمی کی موسائیاں بنوائیں اور اجتماعی پیداوار بڑھانے میں حصہ لیا ۱۹۵۸ء میں اسے ایک مثالی کارکن قرار دیا گیا۔

جون ۱۹۵۸ء میں پیکنگ میں زرعی آلات کی ایک قومی نمائش ہونا تھی۔ نختن کے علاقے نے جس کو ہم غزالوں کے واسطے سے جانتے ہیں اور جو قربان تولوم کی زادبوم ہے۔ کچھ کارکنوں کو وہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا اور ان میں قربان صاحب بھی تھے۔ ان کی خوشی کا کچھ نہ پوچھئے۔ انہوں نے کچھ خشک خوبانیاں اور کچھ میوے ایک پوٹلی میں باندھے اور ایک کپڑا اپنی بی بی کے ہاتھ کا بنا ہوا اور گڑھا ہوا چیئر مین ماؤ کی نذر کرنے کو ساتھ لیا۔ سفر کا ایک بڑا مرحلہ ریل کا تھا، کہاں کہیں ریل ٹھہرتی یہ کھڑکی سے نکال کر بتائی سے پوچھتے ”کیا پیکنگ آگیا؟ اتروں؟“

آخر منزل مقصود آئی۔ قربان صاحب کو چیئر مین ماؤ سے پر زور مصافحہ کرنے کا موقع ملا۔ قربان نے تحفے نذر کیے جو چیئر مین کو بہت پسند آئے۔ واپس آ کر قربان نے پڑھنا لکھنا سیکھا اور اب تو اپنے علاقے کی مشہور شخصیت ہے۔ کونسل ممبر ہے۔“

کینٹن میں ایک اور موقع ہمیں سکیننگ کے نزدیک ہونے کا ملا۔ وہاں سکیننگ کے نوجوان رقاصوں اور موسیقاروں کا ایک کلچرل طائفہ آیا ہوا تھا۔ جنہوں نے سن یات میموریل ہال میں اپنے کمال دکھائے۔ ان میں ایک گیت ”تو بنڑے کا گیت“ تھا۔ چینیوں کو خود سمجھنے اور سمجھانے میں وقت پیش آرہی تھی کہ تو بنڑہ کیا ہوتا ہے۔ آخر ہم نے کہا چپ رہو۔ ہمیں معلوم ہے یہی اپنا تو نبہ تھا۔ (تو نبہ بجدائی نا..... تار بنا) ایک گیت کا عنوان تھا۔ سمندر میں سفر کرتے وقت قطب نما ضروری ہے، ایک اور طوفان میں بھٹکی ہوئی بھیڑوں کے نام سے تھا۔ خوب صورت منقش ٹوپیاں اور آئینہ سے جڑے لمبے لمبے ڈھیلے ڈھالے لباس پہنے لڑکیاں پر یاں معلوم ہوتی تھیں پروگرام کے اختتام پر ہماری ان سے ملاقات کا انتظام ہوا۔ پہلے تو وہ السلام علیکم سن کر بہت خوش ہوئے اس کے بعد چینی مترجم نے تعارف شروع

کرایا۔ پرنسپل ابراہیم خاں کا نام چینی لہجے میں کسی کی سمجھ میں نہ آیا۔ آخر میں آگے  
بڑھ کر کہا۔ ابراہیم خاں سب نے اسے دہرایا۔ پھر جسیم الدین تھے۔ یہ بھی ان کی  
سمجھ میں آگیا۔ اور ہم نے لفظ شاعر کا پیوند لگایا تو سب نے تالیاں بجانیں۔ اس پر  
ہماری سمجھ میں آیا کہ یہ لفظ مشترک ہے۔ ہم کوئی مین میکھ نکالنے تو گئے نہیں تھے۔ لہذا  
اس کے بعد بھی سب کے ناموں کے ساتھ شعر لگاتے گئے۔ ان میں ایسے بھی تھے  
کہ شعر موزوں نہیں پڑھ سکتے لیکن بڑی خوشی سے داد وصول کرتے گئے۔ البتہ پیر  
حسام الدین راشدی نے جن کا نام سب سے آخر میں آیا۔ بڑے زوروں سے انکار  
کیا اور دونوں ہاتھ ہلا کر کہا۔ میں شاعر نہیں ہوں، میں شاعر نہیں ہوں۔



## وہ دکان اپنی بڑھا گئے

ٹوکیو میں ہمیں اپنے ہوٹل کے کاؤنٹر سے ایک کتابچہ ملا۔ ”ٹوکیو، نائٹ لائف اینڈ شاپنگ“ اس شہر خداری دن کی زندگی کم اور رات کی زندگی زیادہ مشہور ہے۔ کوئی سال بھر ہوا رسالہ نام نے لکھا تھا کہ وہاں کے نائٹ کلبوں میں اتنی بھیڑ بھاڑ رہتی ہے کہ بچاری میزبانوں کو بیٹھنے کی اور کوئی جگہ میسر نہیں آتی سوائے معزز مہمانوں کی گود کے..... خیر کھواتو پہلا ہی باب تھا COMMENTS FOR SINGLE MEN یعنی ہدایت نامہ، مجردین، مضمون کا قیاس آپ خود کر لیجئے۔ اس کی تشریح نہیں کی جاسکتی۔ اتفاق سے اسی روز ہمیں ٹوکیو سے باہر نکو جانا تھا۔ رستے میں ریل میں اپنے ایک میزبان سے جو جنگ سے قبل اٹلی میں جاپان کا سفیر رہ چکا تھا۔ عرض کیا کہ دیکھئے یہ کتابچہ ایک امریکن نے چھاپ رکھا ہے۔ اور ضبط ہونا کیا معنی آپ کے سب ہوٹلوں کے کاؤنٹروں سے ملتا ہے۔ اس میں جاپان کی عورتوں کے متعلق کیا اناپ شناب لکھا ہے کہ باریکی میجر یا ماما سان کو باہر لے جانے کی فیس دیجئے اور پھر اپنی میزبان بار گرل یا کیرے گرل کو کہیں بھی سکون اور تنہائی کی جگہ پر لے جائیے۔ اور اس سے فلسفے کی بحث کیجئے۔ جاپانی مردوں کو بھی معاف نہیں کیا۔ لکھا ہے کہ سخت لیچڑ ہوتے ہیں۔ اچھی اچھی لڑکیاں اپنے لیے رکھنا جانتے ہیں لیکن آپ یہ کیجئے کہ یہ نہ ہو تو یہ ترکیب نمبر ۲ آزمائیے وغیرہ..... معلوم ہوتا ہے جاپانی ان کتابچوں کو نہیں پڑھتے۔ ہمارے ہاں تو فوراً اخباروں میں احتجاج اور پابندی لگ جائے۔

وہ صاحب چپ بیٹھے سنتے رہے۔ پھر بولے اچی کیا ہوتا ہے ان باتوں سے، ہم پابندیوں کے قائل نہیں۔

ہم نے شرمندہ ہو کر کتابچہ تہ کیا اور جیب میں رکھا۔ اب ہانک کانگ کی سنئے ٹوکیو سے وہاں پہنچ کر اپنے ہوٹل میں نہادھو کر کپڑے بدل کر سڑک پر نکلے ہی تھے کہ

ایک ذات شریف نے روکا۔

کیا بات ہے؟ ہم نے پوچھا

بولاً ”چو کری چیمئے“

ہم نے کہا ”ہم چینی نہیں جانتے، انگریزی بولو“

کہنے لگا ”میں چینی نہیں ہندوستانی بول رہا ہوں۔“ اچا چو کری۔ سستا چو کری،

جوان چو کری۔“

ظالموں نے اس پر عظیم کے ان پڑھوں کو پھانسنے کے لیے چھو کری کا لفظ یاد کر رکھا ہے۔ ہم نے کہا۔ بہت ترے کی“ بھاگ۔ لیکن اس سے دو قدم پر ایک سائیکل رکشا والے نے اس سے ذرا آگے ایک اور بے فکرے رستہ روکا۔ مضمونو ہی۔ آخر ہمیں خود وہاں سے بھاگنا پڑا۔

ادھر ہوٹل میں دیکھا کہ ٹیلی فون کے برابر وہی سختی لگی ہے کہ ہمارے کرم فرماؤں کو بہت سے غیر متعلق اور ناشائستہ لوگوں فون پر بنفس نفیس آ کر تنگ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم بارہ بجے کے بعد نہ کوئی ایسا فون ملائیں گے نہ کسی کو آنے دیں گے تا آنکہ ہمارے کرم فرما ہمیں اس کے برعکس ہدایت نہ کریں۔ چین میں یہ سوچا بھی نہیں جاسکتا۔

سارے چین میں ایک بھی جسم فروش نہیں۔ ایک بھی فحشہ خانے نہیں۔ ایک بھی ٹائٹ کلب نہیں۔ کوئی فلم خاص برائے بالغاں نہیں، وہی دہانوی کے ناول تک نہیں۔ خیریت اسی میں ہے کہ جیسے گئے ہیں ویسے ہی ہر پھر کے آجائے۔ یوں آپ کا جی لپچانے کے مواقع بھی زیادہ نہیں۔ لباس تک زہد شکنی کا کوئی عنصر نہیں۔ عریانی تو ایک طرف بغیر آستین کا چست لباس بھی نہ ملے گا اور نہ ٹخنوں سے اوپر کسی عورت کی ٹانگ نظر آئے گی۔ بدکاری شوق کی کم، معاشی ضرورت کی زیادہ ہوتی ہے۔ سو وہ کسی کو نہیں۔ سب کھاتے کماتے ہیں۔ شادی کی منزل آئی تو رفیق زندگی مل جائے گا۔



تفریح کی حاجت ہے تو تھیٹر جائے۔ سینما جائے۔ کلچرل پلیس جائے۔ کچھ کھیلے  
لوگوں کو کرتب کرتے دیکھئے، گھر آ کر سو جائے۔ ہمارے ایک رومانی طبیعت کے  
ساتھی نے تنگ آ کر کہا۔ چین بڑا بڑا ملک ہے جی۔

یہ بات انقلاب سے پہلے نہ تھی۔ انقلاب سے پہلے کاشنگھائی سینہ چین کا ناسور  
کہلاتا تھا۔ چوری، ڈکیتی، قتل و غارت، سمسٹنگ کا تو اڈہ تھا ہی۔ فوجہ خانوں کے لیے  
بھی دنیا بھر میں مشہور تھا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ باتیں خواب و خیال ہو گئیں۔  
وہاں ہفتے منانے کا دستور ہیں کہ ایک ہفتے کے لیے گداگروں کو محتاج گھر لے گئے  
اور چند دن میں وہ پھر مشکول بدست مصنوعی زخموں پر مکھیاں بھگاتے ہوئے واپس آ  
گئے۔ نہ اکاؤنٹ کا دعوت گناہ دینے والوں کو پکڑنے کی خبریں سننے میں آتی ہیں۔ چین  
میں جسم فروشی کو ایک معاشرتی روگ یا مجبوری جان کر اس کا علاج کیا گیا۔ محتاؤں کو  
شہروں سے نکال کر قصبوں اور دیہاتوں میں منتشر کر دیا گیا۔ جہاں ان کے ماضی  
کے ذکر سے شرمندہ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ان کی نفسیات اور زندگی بھر کی عادات کو  
دیکھتے ہوئے ایسے کارخانوں میں متعین کیا گیا جہاں شام سے صبح تک کام ہوتا ہے  
اور دن میں لوگ آرام کرتے ہیں پھر ان کی تعلیم کا انتظام ہوا۔ رفتہ رفتہ انھوں نے  
زندگی کے لیے رفیق ڈھونڈ لیے۔ اور یوں معاشرے کا کارآمد اور صحت مند جزو بن  
گئیں۔ البتہ جن کا شوق لاعلاج تھا بالخصوص اس کا رو بار پر چلنے والے۔ انہوں نے  
نئے چین سے کنارہ کیا اور ہانگ کانگ میں آ کر دکانیں جمالیں اور آتے ہی بیان دیا  
کہ نئے چین میں آزادی نہیں۔ جبر کا دور دورہ ہے اس لیے ہم آزاد دنیا میں سانس  
لینے کو یہاں آ گئے ہیں۔ ہمارے کرم فرما کار لائقہ سے یا فرمائیں۔

چین میں بے شمار غیر ملکی جاتے ہیں۔ یا بطور طالب علم رہتے ہیں۔ چند دن میں  
ان کو اس ملک کا مزاج معلوم ہو جاتا ہے۔ چینیوں کے جنسی بے راہروی کے معاملے  
میں اتنے متشدد ہونے کی ایک بڑی وجہ حفظ نفسی ہے۔ قومی خود داری ہے۔ ان لوگوں

کو کہنا ہے کہ اہم اتنے دنوں نکبت و افلاس کا شکار رہے ہیں کہ ہمارے عزت، ہماری عزت نہیں رہی تھی۔ اب ہم بیدار ہوئے ہیں تو یہ کچھ نہ ہونے دیں گے۔ اب ہماری بہنوں، بیٹیوں کی طرف کوئی نظر اٹھا کر نہ دیکھ سکے گا۔ چینیوں کو اپنے ایشیائی اور افریقی دوستوں کو اتنی خاطر منظور رہتی ہے اس کے باوجود فلکس گرین بیان کرتا ہے۔ کہ ایک افریقی طالب علم نے ایک چینی لڑکی سے جو بس کنڈیکٹر تھی دلچسپی لینی شروع کر دی۔ وہ بس سٹاپ پر کھڑا رہتا اور فقط اسی کی بس میں سوار ہوتا اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک روز اس نے اس سے کہا میں فلاں جگہ رہتا ہوں۔ ڈیوٹی ختم ہو تو ”پتیم آن ملو“ وہ تو خیر نہ آئی لیکن دوسرے روز ایک خط اس کو موصول ہوا بعض ناگزیر وجوہ کی بنا پر آپ کا وطن واپس چلا جانا ضروری ہے۔ وظیفہ آپ کا منسوخ۔ ٹکٹ آپ کا تیار ہے۔

کہا جاتا ہے کہ روسیوں سے بگاڑ کی تہہ میں بھی چینیوں کا حفظ نفس سے بڑھا ہوا احساس تھا۔ روسی اپنے کمیونسٹ حلیف کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے لیکن وہ مارکس کو تو جیسا کچھ سمجھ سکتے تھے، سمجھتے تھے چینی مزاج کو نہ سمجھے۔ انہوں نے خود کو چینیوں سے ارفع کوئی چیز سمجھنا شروع کر دیا اور اس کا اپنے رویے سے اظہار کیے بنا نہ رہ سکے۔ حتیٰ کہ ایک روز چینیوں کو کہنا پڑا کہ نماز ہو چکی، مصلے اٹھائے۔ یہ رہے آپ کے ٹکٹ۔ اس وقت بے شمار منصوبے اڈھورے تھے۔ بہت سے کارخانوں کا سامان آدھا پونا تھا اور چینیوں کا کہنا ہے کہ روسی جاتے جاتے کارخانوں اور منصوبوں کے خاکے (بلیو پرنٹ) بھی ساتھ لے گئے۔ اس بڑھیا کی طرح جو گاؤں سے ناخوش ہو کر اپنا مرغ بغل میں داب کر چلی گئی تھی کہ دیکھوں تو اب یہ لوگ کیسے صبح کو اٹھیں گے۔ نہ مر مرغ ہو گا نہ وہ بانگ دے گا نہ صبح ہوگی۔

پانی اور طبیعت دونوں کا اصول ہے کہ روکے تو اور رواں ہوتی ہے۔ پھرتی ہے شگنائی میں نے جو بھاری مشینوں کا کارخانہ دیکھا۔ اور اسی قسم کی مشقمانہ کارروائی

سمجھئے۔ ہم تو خیر ٹیکنیکل آدمی نہ تھے۔ فلک بوس اور دیوہیکل مشینیں چین میں پہلے بھی دیکھ چکے تھے لیکن معلوم ہوا کہ ایک خاص مشین، دباؤ دینے والے ہائیڈرولک پریس کو دیکھنے کے لیے فرانس، سکیٹڈے نیویا اور برطانیہ سے بھی انجینئر اور صحافی آئے ہوئے ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ آخر کیا خاص بات ہے اس میں؟ معلوم ہوا کہ اتنی بڑی قوت یعنی ۱۲ ہزار ٹن کا دباؤ دینے والے پریس فقط دنیا کے آٹھ ملکوں میں ہیں اور فقط پانچ بنانے پر قادر ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، مغربی جرمنی اور چین..... چینی انجینئروں نے یہ پریس اپنی محنت اور ذہانت سے بنایا ہے ان میں سے فقط ایک کو بیرون ملک چیکو سلوویکیا میں اسے سرسری طور پر دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا۔..... نتیجتاً ڈیڑھ سال اس کی ریسرچ اور ڈیزائننگ میں لگا اور ڈیڑھ سال بنانے میں۔ دقتیں بہت تھیں۔ اتنا بڑا خرادان کے پاس نہ تھا۔ کرپین فقط ۲ ٹن اٹھانے والی تھیں اور یہاں ۳۰۰ ٹن اٹھانے والی چاہئیں تھیں۔ بہر حال اب جو بن گیا ہے تو دوسرے ملکوں کے پریسیوں سے قوی تر ہے۔ کیونکہ ان کے دباؤ دینے کی انتہائی قوت جو بالعموم استعمال نہیں کی جاتی لیکن کبھی ضرورت پڑھی جاتی ہے پندرہ ہزار ٹن ہے لیکن اس پریس کی سولہ ہزار ٹن ہے خاص بات یہ ہے کہ روس کے پاس ایسا پریس نہیں ہے۔

وہاں کے ادیبوں کو خاص طور پر روس کے معاملے میں شمشیر برہنہ پایا۔ وہاں میں ایک بڑے جفاوری ادیب ملے تو تین روس ہو آئے تھے۔ وہ بولے جناب اگر کوئی غیر کمیونسٹ ہے تو ٹھیک ہے۔ آپ لوگ بھی غیر کمیونسٹ ہیں۔ آپ سے ہمیں تعرض نہیں۔ آپ لوگ کم از کم کمیونزم کو خراب تو نہیں کرتے۔ اس میں تحریف کر کے لوگوں کو گمراہ تو نہیں کرتے۔ روس کے ادیبوں کی کتابوں کے مندرجات کو تو جانے دیجئے۔ ان کی گفتگو فرصت ہوگی۔ ایلیا اہرن برگ سے پوچھا گی کہ آپ آج کل لکھتے کیوں نہیں۔ بولا مجھے کیا ضرورت ہے لکھنے کی میرے پاس رائٹنگ کے کوئی دو کروڑ دبل ہیں وہی ختم نہیں ہوں گے۔ شولوخوف صاحب کا گھر بھی دیکھا۔ ایک



نہیں تین ہیں جنہیں محل، بنگلے، کوٹھیاں کہہ لیجئے۔ جب کہ بہتوں کو دو کمرے کے مکان بھی مشکل سے میسر ہوتے ہیں۔ پڑے اینڈ تے ہیں۔ کاریں ہیں اور ایک ذاتی ہوائی جہاز بھی۔ بیسیوں نوکر مٹھی چا پی کرنے کو ہیں کیونکہ لاکھوں کی رائلٹی آتی ہے۔ ابھی کل ہی ٹو کیو میں جہاں وہ استراحت فرما رہے ہیں۔ ان سے کسی نو جوان مصنف نے آشیر داد مانگی تو بولے میرا مشورہ یہ ہے کہ کسی لکھ پتی کی لڑکی سے شادی کرو تا کہ دلجمعی سے لکھ لکھا سکو۔ بھلا ایسے ہوتے ہیں کمیونسٹ؟ ان میں اور جاگیر داری دور کے کسی رئیس میں کیا فرق ہے؟

سرخ محافظوں کی تحریک اس زمانے میں تو شروع نہ ہوئی تھی۔ جب ہم چین میں تھے لیکن ہمارے جو دوست ہمارے بعد وہاں ہو کر آئے ہیں۔ شوکت صدیقی اور اشفاق احمد وغیرہ۔ ان کا بیان ہے کہ یہ تحریک اسی قسم کے رجحانات کے خلاف ہے جو سرمایہ داری کی طرف واپسی کا راستہ کھولتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ دیکھو روس سے چوری حتیٰ کہ جنس بے راہ روی کی اتنی خیریں آ رہی ہیں۔ اس لیے کہ بعض طبقے، انجینئر، سائنسٹ، مصنف وغیرہ جن کی یافت زیادہ ہے خود کو اللہ کے برگزیدہ بندے اور عوام الناس سے برتر سمجھنے لگے ہیں۔ اس کے برعکس چین میں باہمی آمدنی کا فرق بتدریج کم کیا جا رہا ہے۔ پہلے اوپر کی حد سات سو آٹھ سو یوان تھی۔ اب ساڑھے تین سو پر آ گئی ہے۔ نیچے کی حد پچاس سے بڑھ کر سو ہو گئی ہے۔ فقط وہ لوگ جو طالب علم بھی اور کام بھی کرتے اس سے کم پاتے ہیں۔ کوئی دن میں نیچے کی حد اوپر کی حد سے جا ملے گی۔ اور اس کے بعد پوری قوم کی محنت پوری قوم کی ہم سطح خوشحالی کے کام آئے گی۔

چین میں بھی مصنفوں کو رائلٹی ان کی کتابوں کی اشاعت کے حساب سے ملا کرتی تھی۔ جو بعض صورتوں میں بہت ہو جاتی تھی۔ ۱۹۶۵ء میں اس کی حد مقرر کر دی گئی۔ اب فقط کتاب کے پہلے ایڈیشن پر مقررہ رائلٹی ملتی ہے۔ اس پر ہماری اپنی



چینی دوستوں سے بہت بحث رہی۔ ہم بطور شاعر اور ادیب کے سوچتے تھے۔ وہ چینی قوم کے ایک فرد کے۔ ان کا کہنا تھا کہ روپے کے علاوہ بھی دنیا میں ایسی قدریں ہیں جن کے لیے انسان محنت کرتا ہے۔ لکھتا ہے یہ بات پہلے تو ہماری سمجھ میں نہ آئی۔ پھر جو ساری قوم کا یہ رنگ دیکھا تو آگئی۔ اسے کہتے ہیں۔

حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو  
چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو



## ہر قسم کی صفائی ہے سوائے ہاتھ کی صفائی کے

پیکنگ کی سڑکوں پر جب پہلے پہل ہمیں ایسے لوگ نظر آئے جنہوں نے اپنے منہ اور ناک پر سفید کپڑے کے ماسک چڑھا رکھے تھے تو ہمیں شبہ ہوا کہ یہ لوگ جین مت کے پیرو ہیں۔ چینیوں کا ایک طبقہ ایسا ہم نے دیکھا ہے جو منہ پر کپڑے کی پٹی باندھے رکھتا ہے تاکہ ان کے سانس کی آمد و شد سے ان کیڑوں اور جراثیم کو جسمانی گزند نہ پہنچے جو فضا میں موجود ہیں، معلوم ہو کہ یہاں یہ بات نہیں۔ ان میں سب کچھ لوگ احتیاط کر رہے ہیں کہ ان کا زکام دوسرے کو نہ لگ جائے لیکن زیادہ تر بطور احتیاط ایسا کرتے ہیں کہ باہر کے گرد و غبار اور جراثیم کے اثرات سے محفوظ ہیں۔ وہاں کے ہسپتال میں ہم نے اشتیاق ظاہر کیا تو ایک ایک ماسک ہمیں اور اعجاز بٹالوی کو بھی عنایت ہوا۔ ہمیں تو اس نہ آیا۔ اعجاز صاحب دو دن تک منہ باندھے پھرتے رہے۔ ان کا یہ عمل کم از کم ہمارے لیے فائدے سے خالی نہ تھا۔ کیونکہ وہ عموماً کم گوئی سے احتراز کرتے ہیں اور اپنے پیشے و کالت سے مجبور سیدھی سادھی بات کو بھی دلائل اور براہین سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجہ ہی کہ اور لوگ منہ کھولتے تھے تو گفتگو کرتے تھے۔ اعجاز صاحب تقریر..... ان دونوں میں ہمارے اعصاب کو خاصا سکون رہا۔

صحت کا خیال چینیوں کو اس حد تک رہتا ہے کہ وحشت ہوتی ہے۔ ہم ایسے آرام طلبوں کا تو وہاں جینا حرام ہو جائے۔ ورزش ہر کوئی ہر روز کرتا ہے ہمارے ایک دوست ڈھاکے کے رہنے والے سڑکوں پر اتنا تھوکتے ہیں کہ ڈھاکہ میونسپلٹی کو ایک الگ داروغہ صفائی رکھنا پڑا ہے جہاں یہ ہوتے ہیں وہ سی آئی ڈی کی طرح ان کے پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ ان کو وہاں بڑی تکلیف ہوئی کہ وہاں یہ رواج نہیں۔ نہ اجازت ہے۔ پانی ابال کر پیتے ہیں۔ موبل آئل وہاں گاڑیوں میں ڈالا جاتا ہے۔ اصلی یا بنا سہتی گلی کہہ کر فروخت نہیں کیا جاتا۔ بھٹے کی اینٹیں بھی مکان بنے میں استعمال

ہوتی ہیں۔ ہلدی اور مرچ میں ملا کر ان سے تعمیر معده کا کام نہیں لیا جاتا۔ وہاں دودھ بھی گائیوں بھینسوں کا ہوتا ہے۔ تالابوں یا کمیٹی کے نلکوں سے حاصل نہیں کیا جاتا۔ پھر محنت ہر کوئی کرتا ہے لہذا سارے چین میں ہم کسی ایسے شخص کی تلاش میں رہے جو بڑی نہ سہی چھوٹی موٹی تو ندی کا مالک ہو۔ سوچو کے ہوٹل میں ہم نے کچھ چینی توندوں والے دیکھے تو خوش ہوئے اور وطن عزیز کی یاد آئی۔ لیکن معلوم ہوا وہ یہاں کے نہیں۔ سنگاپور سے بغرض تفریح آئے ہوئے ہیں۔ لاغر آدمی بھی چین میں کوئی نظر نہ آیا۔ واپسی پر ہماری ایک امریکن دوست نے اس کی یہ توجیہ کی کہ جب کوئی غیر ملکی آتا ہے تو ڈھنڈورا پیٹ جاتا ہے کہ لاغر لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جائیں اور اندر سے کنڈیاں بچے حالیں تاکہ غیر ملکی متاثر ہو جائیں۔ ہم نے کہا وہاں تو کوئی ایسا وقت نہیں آتا کہ غیر ملکیتوں کے غول کے غول نہ گھومتے پھریں اور کئی بار تو وہ بلا اطمینان بھی دیہات اور کھیتوں۔ کارخانوں اور گلیوں میں جا نکلے ہیں۔ چینیوں کو بہت تکلیف ہوتی ہوگی۔ وہ صاحب بولے خیر آپ یقین نہیں کرتے نہ سہی۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے۔

چین میں ہمارے لیے ایک پریشانی یہ تھی کہ جہاں کہیں ذرا سا کھانے یا چھینکے۔ ہمارے ترجمان نے ٹیلی فون اٹھایا کہ بلائیں ڈاکٹر کو۔ ان کی منت سماجت کر کے منع کرنا پڑتا تھا اور بعض اوقات تو کوئی تکلیف واقعی ہو تو بھی چھپانا پڑتا تھا۔ سید وقار عظیم یہاں سے کچھ علیل گئے تھے کچھ دیوار چین کی سردی سے صاحب فراش ہو گئے۔ ان کا مرض خاص ہے اور بعض خاص دوائیں ان کو اس آتی ہیں لہذا وہ شنگھائی سے قبل از وقت واپس آنا چاہتے تھے ادھر چینیوں کا خیال تھا کہ ہمارے ہاں سے کوئی شخص تندرست واپس نہ گیا تو ہماری بدنامی ہوگی۔ انہوں نے کئی ڈاکٹر لگا دیئے۔ پیٹنٹ دوائیں تک ہانگ کانگ سے منگا کر دینے کو تیار تھے لیکن وقار صاحب کا اصرار اور ہمارا اپنا یہ خیال تھا کہ ان واپس جانا بہتر ہے۔ میں چونکہ

ادیبوں کے وفد کا سیکرٹری بھی تھا اس لیے جانتا ہوں کہ چینیوں نے ان کو وہاں روکنے کے لیے کیا کیا جتن کیے۔ بس ماؤزے تنگ سے صدر ایوب کے نام تار دلوانی رہ گئی۔ ورنہ کون سی سفارش ہے، جو اس کے لیے انہوں نے استعمال نہ کی۔ وہاں میں ہمارے ہسپتال جانے کی تقریب یہ تھی کہ وہاں ہمیں کچھ فلوکا اثر معلوم ہوا۔ کم از کم زکام ضرور تھا۔ دیکھا کہ ڈاکٹر پُر ڈاکٹر چلا آ رہا ہے۔ پھر اطلاع ملی کہ ہسپتال کا سربراہ ہم سے ملاقات کا متمنی ہے۔ آخر ہم نے کہا بابا ہم خود چلے جاتے ہیں ہسپتال۔ وہاں گئے تو انہوں نے ہمارے اعضاء رئیس و غیر رئیس آنکھ، کان، ٹانگ وغیرہ سب دیکھ ڈالے۔ دراصل اسی باعث ہم وہاں جانے سے کتراتے تھے اور خود کو قتل عاشقان سے منع کرتے تھے۔ کہ باقی سب لوگ وطن سدھاریں گے ہم یہاں داخل دفتر ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ہم جانتے ہیں کہ فارما کو پیا میں شاید ہی کوئی مرض ہوگا جو ہم میں نہ ہوگا۔ خیر ہسپتال تو ہم داخل ہو کر نہ دیئے۔ دو اضرور لے آئے اور ابھی استعمال بھی نہ کی تھی کہ تندرست ہو گئے۔

یہ ہسپتال ساڑھے سات سو بیڈ کا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے جرمن زبان میں سات سال تک ڈاکٹری پڑھی تھی اور بیس سال سے پریکٹس کر رہے تھے۔ ہمارے جی میں آئی کہ ان سے پوچھیں کہ آپ کینڈا کیوں نہیں چلے جاتے۔ وہاں ڈاکٹروں کو زیادہ تنخواہ ملتی ہے۔ یہ سوال پوچھا۔ تو نہیں لیکن جی اس لیے چاہ کہ ہم خود کتنے ڈاکٹروں کو جانتے ہیں جو تنخواہ اور آمدنی کے لیے وطن عزیز چھوڑ کر کینڈا، امریکہ اور برطانیہ میں پریکٹس کر رہے ہیں اور ہماری ہاں آدھی موتیں بروقت ڈاکٹر میسر نہ آنے سے ہوتی ہیں۔ ان سے پوچھئے تو کہتے ہیں کہ ہاں وطن کی خدمت کرنے میں اعتراض نہیں لیکن یہاں ہماری قدر نہیں۔ ہمیں سر آنکھوں پر نہیں بٹھایا جاتا۔ اس پر ہمیں اس چینی ادیب کی یہ بات یاد آئی کہ تنخواہ اور آمدنی کے علاوہ بھی کچھ قدریں جن کے لیے آدمی کام کرتا ہے اور جاں سوزی برتا ہے۔ ایسے ڈاکٹروں، انجینیئروں اور



دوسرے ماہروں کی تعداد سینکڑوں بلکہ ہزاروں تک پہنچتی ہے۔ جو امریکہ اور یورپ کے ملکوں سے آرام اور تمول کی زندگی چھوڑ کر واپس آئے اور اب معمولی کپڑوں میں معمولی تنخواہ لے کر معمولی مکانوں میں رہتے ہیں۔ لیکن خوش ہیں۔ یہاں ڈاکٹروں کے لیے چند سال سرکاری خدمت لازم قرار دی گئی تھی تو کھرام مچ گیا تھا اور دیہات میں جانے کے نام سے تو ہر کوئی کان پر ہاتھ رکھتا تھا۔ وہاں دیہات کو بھی ملک کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اور دیہاتی انسانوں میں شمار ہوتے ہیں جن کا پانی بجلی۔ تعلیم صحت تفریح تہذیب سب پر حق ہے۔ اچھلچول کہلانے والے طبقے کے لوگوں ادیبوں، پروفیسروں، ڈاکٹروں وغیرہ کو ہر سال میں دو مہینے جا کر دیہات میں دیہاتیوں کے ساتھ انہی کے مکانوں میں رہنا پڑتا ہے۔ اسی کا اثر ہے کہ یہ لوگ خود کو کوئی علیحدہ آسمانی مخلوق نہیں گردانتے اور اس قاعدے سے صدر ماؤزے تن تک مستثنیٰ نہیں ہیں۔


اوپر ہم نے سنگاپور کے چینیوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ لوگ OVERSEAS یعنی سمندر پار کے چینی کہلاتے ہیں اور ان کے لیے ہوٹل اور کلب وغیرہ بھی ہیں۔ یہ لوگ سنگاپور ہی نہیں ایشیا اور یورپ کی سبھی ملکوں سے آتے ہیں۔ سوچو میں ہمیں جو حضرات ملے یہ لکھ پتی قسم کے تھے۔ اور تین ماہ سے اقصائے چین میں سیر کرتے پھرتے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا تاثر کیا ہے؟ آپ لوگ کیوں یہاں آئے؟ ان میں ایک صاحب نے کہا ہمارے دادا یہاں سے بھوکے مرتے قلی بھرتی ہو کر ملایا گئے تھے۔ وہاں انہوں نے رفتہ رفتہ ترقی کی۔ ہماری پیدائش اور پرورش سب وہیں کی ہے۔ اب ہم نے سنا کہ ہمارا آبائی ملک جہاں سے ہمارے اجداد کو بھوک نے بھگایا تھا اتنی ترقی کر گیا ہے اتنا خوش حال اور طاقتور ہو گیا ہے تو جی چاہا کہ جا کر دیکھیں اور واقعی ہم بہت خوش ہیں۔ اکثر لوگ تو گھوم پھر کر واپس چلے جاتے ہیں لیکن بہت سے ٹھہر بھی جاتے ہیں جس سائنسدان کے سرچین کے ایٹم بم

کی تیاری کا سہرا باندھا جاتا ہے وہ بھی امریکہ سے واپس گیا تھا اور امریکہ میں ایک بہت اونچے سائنسی ادارے میں بڑی ممتاز حیثیت کا مالک تھا۔

صحت میں علاج کی سہولتیں اور ورزش و محنت کے علاوہ کچھ دخل خوراک کا بھی ہے۔ چینی روغن جوش نہیں کھاتے، سادہ خوراک کھاتے ہیں۔ یہ رواج ہمارے ہاں کا ہے کہ جب تک کسی چیز کے تمام اجزاء کو جن میں وٹامن یا دوسری غذائیتیں ہونے کا خطرہ ہے، پوری طرح ضائع نہ کر دیا جائے مزا نہیں آتا۔ خیر اس مسئلے پر ہم زیادہ زور نہیں دینا چاہتے۔ کیونکہ بہت سے ڈاکٹر، حکیم ہمارے حلقہ احباب میں ہیں ان کی خوشحالی پر آنچ آنے سے ہم خوش نہ ہوں گے تاہم گھروں کی اور کوچہ و بازار کی صفائی ہمیں بھی پسند ہے۔ وہاں کسی کو اپنے گھریا گلی میں جھاڑو دینے میں عذر نہیں۔ ریل گاڑی تک کی دھلائی ہر روز ہوتی ہے۔ یہ حال تو مادی اور ظاہری صفائی کا ہے ان کی اخلاقی صفائی اور پاکیزگی کا کچھ ذکر ہم گزشتہ باب میں کر چکے ہیں۔ جو مغرب کی تمام آلائشوں اور جنس کے مظاہرے سے دور رہنے سے پیدا ہوئی ہے۔ معلوم ہوا کہ سب خرابیوں کی جڑ زر کی فراوانی یا اسباب تمول کی ہوس ہے۔ اور یہ ہوس تب پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے ہمسائے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاں کار اور ریفریجریٹر آگئے ہیں میرے پاس کیوں نہ ہوں خواہ مجھے اس کے لیے رشوت یا بے ایمانی کیوں نہ کرنی پڑے۔ چین میں شاید ہی کوئی گھر کوتالا لگاتا ہو۔ چوری ہونا ایک طرف وہاں کسی چیز کا گم ہو کر گرم رہنا محال ہے۔ مثالیں اس کی ہم پہلے دے چکے ہیں۔

چین میں مال کی فراوانی ہے اور قیمتیں یکساں ہیں آپ کسی چیز کو پیکنگ سے خریدیے یا شنگھائی میں لیجئے۔ ہوائی اڈا یا بازار کا اسٹور، کہیں قیمت میں کوئی فرق نہیں ملے گا۔ دکانیں ہر قسم کے مال سے منھا منہ بھری ہوئی ہیں اور کسی ڈیپارٹمنٹل اسٹور میں جائیے تو بھیڑ میں رستہ پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے وفد کے ارکان کو

یہاں سے دس دس پندرہ پندرہ پونڈ زر مبادلہ ملا تھا جو سب کو تھوڑا محسوس ہوتا تھا لیکن ہمارے پیر صاحب، پیر حسام الدین راشدی نے فرمایا کہ میاں کیوں پریشان ہوتے ہو، میں تو اتنا بھی نہیں لے رہا۔ تم کو کمیونسٹ ملکوں کا حال معلوم نہیں۔ میں کچھلے سال روس ہو آیا ہوں وہاں دکانوں میں اتنی چیزیں ہیں کہاں؟ معمولی معمولی چیزوں کے لیے بڑے بڑے کیو لگتے ہیں۔ آخر ہم نے کہا کہ آپ لے لیجئے فنج رہے گا تو واپس کر دیجئے گا وہاں وہ چیزوں کی فراوانی کا عالم دیکھ کر حیران رہ گئے نہ صرف اپنے بیس پونڈ صرف کئے بلکہ اس سے دگنے وہاں دوستوں سے ادھار لیے۔ پھر بھی واپسی میں رستہ بھر افسوس کرتے آئے کہ ہائے فلاں چیز نہیں لی فلاں چیز رہ گئی۔



## خان صاحب کی بھوک کمزور ہو گئی تھی

جن بزرگ کا یہ تذکرہ ہے وہ چین کا دورہ کرنے والے ادیبوں کے وفد میں ہمارے ساتھی تھی۔ طبعی انکسار کے باعث اپنے نام کا اعلان شاید پسند نہ کریں لہذا ہم ان کو صرف خان صاحب کے نام سے یاد کریں گے۔

خان صاحب بزرگ آدمی ہیں، ساٹھ پینسٹھ سے اوپر عمر ہے۔ لیکن بڑے کینڈے کے آدمی ہیں (کاتب صاحب! کینڈے کے ک کوگ بنانے کی کوشش نہ کیجئے) پیکنگ میں پہلے ہی روز ہم جب ناشتے کی میز پر بیٹھے اور بیرے نے آرڈر لینا شروع کیا تو سب سے پہلے ہماری باری تھی۔ ہم نے کہا ایک انڈا ہاف بوائٹڈ، ہمارے دوسرے رفیق نے دو انڈے۔ خان صاحب کے آگے شمع چمچی تو بولے تین انڈے۔ ہم نے پہلے یہ سمجھا کہ یہ ناشتے کی میز نہیں نیلا گھر ہے اور بولی بڑھ رہی ہے۔ اب اس سے اگلا آدمی چار انڈے مانگے گا۔ پھر یہ خیال کیا کہ خان صاحب کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے لہذا عرض کیا کہ قبلہ صرف اپنے لیے آرڈر دیجئے ساری میز کے لیے نہیں۔ ہم اپنا آرڈر دے چکے۔

خان صاحب نے کہا، ”جی میں اپنا ہی آرڈر دے رہا ہوں اور..... دیکھنا پیرا آٹھ تو س، چند نکلیاں مکھن کی، دلیہ، دہی اور کچھ بھنے ہوئے گردے اور سبزی مچھلی وغیرہ بھی۔“

لیکن جلدی..... ہاں کافی بھی“

بہت بہتر جناب

چاول ہیں؟

جی ہاں ہیں۔

ایک پلیٹ ان کی بھی۔ شاباش میرے بھائی جھپاک سے۔

بعض لوگ ناشتہ ڈٹ کر لیں تو پھر دن بھر کچھ نہیں کھاتے۔ ہم نے خان صاحب



کو انہی میں شمار کیا۔ لیکن لٹچ پر جب آدھے لوگوں نے چینی کھانے کا آرڈر دیا اور آدھوں نے یورپین کھانے کا۔ تو بیر انخر سے بولا جب پاکستانی کھانا چاہیے تو اس کا انتظام ہے۔ پراٹھے ہیں وال ہے سبزی ہے بھنا گوشت وغیرہ۔

خان صاحب نے کہا۔ میاں ہمارے لیے تینوں لے آؤ۔ ولایتی کھانا تو خیر ہمیں مرغوب ہی۔ لیکن اب چین میں ہیں تو تھوڑا چینی کھانا بھی چکھ کے دیکھیں اور پاکستانی کھانے بھی دیکھیں تم کیا بناتے ہو۔ اس موقع پر انہوں نے حاضرین سے خطاب کر کے ماؤزے تنگ کا مشہور مقولہ بھی دہرایا کہ رنگا رنگ پھولوں کو اپنی اپنی بہار دکھانے دو۔ اب چیئر مین ماؤ کا نام بیچ میں آئے اور کوئی دم مار سکے، ناممکن۔

قصہ مختصر یہ کہ خان صاحب نے پہلے روز سے جس صلح کلی پالیسی کا آغاز کیا اسے آخر تک نبھایا۔ کسی پلیٹ سے اور کسی قسم کے کھانے سے کوئی تعصب نہ برتا۔ اگر کوئی پلیٹ دور رکھی جائے تو فوراً کسی رفیق سے فرماتے تھے وہ کیا چیز ہے اسے بھی تو ذرا دیکھیں۔ اب ہم جیسے نیاز مند بھی تعاون کرنے لگے جہاں ان کی پلیٹ کو خالی ہوتے دیکھا ایک بڑے چمچے سے ایک نئی قسط ڈال دی۔ انصاف سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کا ہاتھ نہ روکا۔ کبھی کسی کی دل شکنی نہ کی۔ مچھلی ہو یا سبزی، بیف یا دنبے کی چکی۔ خان صاحب نے سب کو ایک ہی آنکھ سے دیکھا (دوسری وہ بند کر لیتے تھے)

چین کی چائے تو خیر خاص قسم کی ہوتی ہے۔ چند پیتاں اور پانی۔ نہ دودھ نہ میٹھا۔ لیکن ہمارے لیے خاص طور پر اس جو شاندرے کا انتظام کیا جاتا تھا جسے ہم اپنے ہاں چائے کہتے ہیں۔ وہاں اس کا نام خونچا ہے۔ خان صاحب بھی یہی پیتے تھے لیکن اس کا نسخہ بھی ان کا اپنا تھا۔ وہ اس میں ایک ٹکلیا مکھن کی ضرور ڈالتے تھے اور اس کے بعد دودھ لیکن ایک روز بیرے کو دودھ لانے میں کچھ دیر ہو گئی تو ہمارے مخدوم پیر حسام الدین راشدی نے جوان کا خاص خیال رکھتے تھے فرمایا کہ حضرت

دودھ نہیں تو نہ سہی، ایک مکھن کی نکلیا اس کے حصے کی اور ڈال لیجئے۔ آخر اصل تو دونوں چیزوں کی ایک ہی ہے۔ خان صاحب کو یہ بات پسند آگئی۔ تھوڑی دیر میں دودھ آگیا تو ان دو لکیوں کے علاوہ انہوں نے کوئی آدھ پاؤہ بھی ڈالا (یاد رہے کہ وہاں اس گلاس میں دی جاتی ہے جس میں ہمارے ہاں موچی دروازے کے پہلو ان لسی پیتے ہیں) اس کے بعد دو نکلیا ان کا معمول ہو گئیں۔ آپ نے کبھی آئس کریم کو دیکھا جو رکھے رکھے پگھل گئی ہو بس یہی رنگ ہوتا تھا۔ خان صاحب کی چائے کا۔

چین میں ہماری قسمت میں حیرانی ہی حیرانی لکھی تھی۔ باہر جاتے تو چین والوں کے کارخانے، میوزیم، کمیون وغیرہ دیکھ کر حیران ہوتے تھے اور ہوٹل میں ہوتے تھے تو خان صاحب کو دیکھ کر وجد کرتے تھے۔ ہم کبھی فیصلہ نہ کر پائے کہ ان دونوں میں زیادہ حیران کرنے والی کون سی بات ہے۔ ادھر جاتا ہے یا دیکھیں ادھر پروانہ آتا ہے۔ لیکن خان صاحب کی داستان ابھی ختم نہیں ہوئی۔ پکنگ سے چل کر ہم وسط چین کے شہر ووہان پہنچے تو ایک شام خان صاحب کو قدرے پریشان پایا۔ ہم نے کہا۔ خان صاحب کیا بات ہے؟

بولے۔ بات تو کچھ خاص نہیں۔ لیکن یہاں کے بیرے میری زبان نہیں سمجھتے۔ ہم نے کہا آخر ان کو اپنی زبان سمجھانے اور ان کی زبان سمجھنے کی ضرورت ہی کیا ہے وہ بہت سالا کر رکھ دیتے ہیں ہم بہت سا کھا لیتے ہیں اب رہی زبان دانی اس کا انتظام پکنگ یونیورسٹی میں ہے جہاں ہماری زبان سکھائی جاتی ہے۔ لیکن یہ خاص علمی مسئلہ ہے اس میں ہمیں آپ کو تردد کی کیا ضرورت؟

بولے آپ نہیں سمجھتے۔ بات یہ ہے کہ پکنگ میں بیروں کو معلوم تھا کہ صبح چار بجے اٹھ کر میں چائے کے ساتھ دو انڈے اور تین چار تو س کھاتا ہوں وہ اس لیے کہ پھر ناشتہ میں دیر سے یعنی آٹھ ساڑھے اٹھ بجے کرتا ہوں لیکن یہاں کے بیروں کو یہ معمول کیسے سمجھاؤں۔ ترجمان بھی کوئی اس وقت موجود نہیں۔

ہم نے کہا وہ جو آپ نے پون سیر دو دھکا گلاس اپنے کمرے میں بھجوایا ہے اور سیبوں کی قاب بھی میں دیکھ آیا ہوں۔ ان کا کیا ہوگا؟

فرمایا: وہ تو میرے سوتے وقت کا ناشتہ ہے میں تو صبح کی بات کر رہا ہوں۔

ہم نے کہا یہ سحری آپ ہمیشہ سے کھاتے آئے ہیں۔

بولے گھر میں تو نہیں لیکن پیکنگ میں اس کی پابندی کرتا رہا ہوں۔

خان صاحب سیب بہت رغبت سے کھاتے تھے اور انگریزی کے اس مقولے کا ورد کرتے جاتے تھے کہ روزانہ ایک سیب کھاؤ، ڈاکٹر بھگاؤ، ہم نے کہا خان صاحب چین میں تو بہت ڈاکٹر ہیں اور یوں بھی یہاں ہماری نوبت چند روزہ ہے لیکن اپنے ملک میں آپ نے اس ترکیب سے ڈاکٹروں کو دفع و فان کرنا شروع کیا تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔

ہمارے خان صاحب کے اتنا کھانے کا اثر یہ تھا کہ وہ ہفتے میں مشکل دو روز صاحب فراش ہوتے تھے۔ ہمارے میزبان ہم پر ایسے مہربان تھے کہ ڈاکٹر کا بندوبست فوراً کرتے تھے۔ ایک روز جب ڈاکٹر ان کا احوال پوچھ رہا تھا تو ہم بھی قریب ہی تھے بس اتنی بھٹک کان میں پڑی۔

’اور بھوک.....‘

بس بھوک ہی تو کمزور ہو گئی ہے۔ خان صاحب نے ننکھیوں سے ہماری دیکھتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔

## ہمارا صحیح مقام شنگھائی والوں نے پہچانا

شنگھائی میں ہمارا جو عدیم المثال استقبال ہوا اگر وہ واقعی ہمارا تھا تو ہمیں چاہیے کہ ہر ماہ بس ایک بار شنگھائی ہو آیا کریں۔ وٹامن بی کمپلکس، کمپلکس، کمپلکس اور ماء اللحم وغیرہ کے استعمال کی ضرورت نہیں۔ خون سیروں کے حساب سے خود بخود بڑھتا رہے گا۔ وہاں ہم ریل سے پہنچے تھے۔ جھٹ پٹے کا وقت تھا۔ دیکھا کہ ریلوے اسٹیشن کے صدر دروازے کے باہر قطار در قطار ہزاروں آدمی بارگلدستے اور غبارے لیے کھڑے ہیں۔ ہماری صورت دیکھتے ہی سب نے نعرہ حیدری بلند کیا۔ پہلے تو خلقت کے اس اثر وہام کو دیکھ کر ہم حیران و پریشان ہوئے پھر ہمت کر کے خود بھی نی ہاؤ..... نی ہاؤ یعنی بخیر بخیر کا آواز دہرایا۔ ہم لوگ کاروں میں بیٹھے تو یہ جھوم اور بے قابو ہو گیا۔ ہر شخص ہماری دست بوسی پر مصر تھا۔ ہمارے ساتھیوں نے اپنے کالے کالے بچے باہر نکال دیئے کہ لو ان کو چوم لو، آنکھوں سے لگا لو۔ پھر جانے ہمارا چین آنا ہو کہ نہ ہو۔ نتیجہ اس والہانہ خیر سگالی کا یہ ہوا کہ ٹریفک رکنے لگا۔ ہم سمجھے کہ ہنگامہ اسٹیشن کی حدود تک ہے۔ اس کے بعد میدان صاف ملے گا۔ لیکن اسٹیشن سے ہوٹل تک کئی میل تک یہی منظر تھا۔ لوگ یوں ہی صف آرا تھے اور دل و جگر ہماری راہ میں نچھاور کرنے کو بے تاب تھے ہمارا اندازہ عموماً غلط ہوتا ہے تاہم قیاس ہے کہ کوئی دو تین لاکھ آدمی ہوں گے۔ اتنے نہیں تو پچیس تیس ہزار سے کم تو کسی صورت نہ تھے۔ زیادہ تر بچے اور نو جوان لڑکے لڑکیاں، پولیس کے سنتری ان کو روکنے کی برابر کوشش کر رہے تھے کہ ہماری کاروں کے لیے راستہ رہے لیکن بے کار۔ آخر ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائیو، بہت ہو چکا اب اپنے ہاتھ اندر کر لو۔ بس دور سے سلام کرو۔ ورنہ کوئی حادثہ ہو جائے گا۔ دو تین بار کسی زہرہ جبین کو کہ چین میں بھی ہوتی ہیں مصافحہ کی سعادت بخشے کے لیے ہم نے ہاتھ نکالا تو وہ کسی اور بھلے مانس نے اچکایا۔





کیسا ملک ہے جہاں پان بھی نہیں کھایا جاتا۔ انشاء اللہ ماشاء اللہ کا تو ام تک نہیں ملتا۔ ان کے میاں اس کا ترجمہ بھی فصیح انگریزی میں کرتے کہ یہاں کی عورت کے عزم و ہمت نے ہمیں متاثر کیا ہے۔ اے ماؤں، بہنو، بیٹیو، دنیا کی عزت تم سے ہے..... بی بی انگریزی بھی جانتی ہیں اگرچہ بولتی نہیں فرماتیں، اے میاں یہ تم کیا کا کیا کہے جا رہے ہو! اس پر وہ کہتے بی بی چپ رہو میں تمہارے دلی جذبات کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ تمہاری ظاہری گفتگو سے مجھے مطلب نہیں۔

شنگھائی کے ہوٹل میں ایک روز ہمارے دوست ڈاکٹر وحید قریشی پر ایک حادثہ گزر گیا۔ بیرے نے مینو پیش کیا تو ڈاکٹر صاحب نے جو مچھلی کھانے کے موڈ میں تھے۔ جیلیش پسند کی یہ ایک جلیجاسا سمندری جانوری ہوتا ہے۔ لہذا جیلی معلوم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک دو لقمے کھائے تھے کہ ہمارے مخدوم پیر حسام الدین راشدی نے ذکر چھیڑ دیا کہ ہمارے ہاں خواہ مخواہ سانپ کے خلاف تعصب پایا جاتا ہے حالانکہ اس کے کھانے والوں کو جوڑوں کا درد کبھی نہیں ہوتا۔ اور موٹاپا کم کرنے کے لیے بھی مفید ہے ہاں ذائقے کا معلوم نہیں کیا ہوتا ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب سے مخاطب ہو کر کہا کیوں ڈاکٹر صاحب آپ تو کھا رہے ہیں کیا ذائقہ ہے اس کا؟ ڈاکٹر صاحب یک لخت رک گئے اور کہا۔ یہ سانپ ہے کیا؟ ”جی نہیں یہ تو مچھلی ہے“ ہم سے گواہی لی گئی تو ہم نے وضاحت کی کہ ہر چند یہ مچھلی نہیں سمندر سانپ ہی ہے لیکن اس کے کھانے میں مضائقہ نہیں۔ چینی اسے بہت اشتیاق سے کھاتے ہیں اس لیے متعدد بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اب انہوں نے غور سے پلیٹ کو دیکھا تو کھانے کی شکل دیکھ کر خود بھی گھبرائے کہ یہ جلیجی سی چیز ہے مشتبہ۔ پھر صاحب نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب آپ تو تعلیم یافتہ آدمی ہیں کیوں ایسے وہموں میں پڑتے ہیں

اور یوں بھی خدا نخواستہ یہ ایسا جانور تو نہیں کہ ممنوع ہو یا مضر ہو۔ ہانگ کانگ میں تو چینی لوگ آپ کے سامنے زندہ سانپ کاٹ کر ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے دوسروں کی طرف دیکھا بعضوں نے کہا یہ پیر صاحب آپ کو بنا رہے ہیں۔ یہ مچھلی ہی ہے۔ اندیشہ نہ کیجئے، کھائیے۔ ہم نے بھی یہ دیکھ کر ان کی طبیعت کی مالش کرنا شروع کر دیا ہے ان کی غلط فہمی دور کرنے کو کہا کہ یہ زانداق ہے یہ مچھلی ہے شوق سے کھائیے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کی طبیعت ان کے قابو سے گزر چکی تھی۔ سیدھے ہاتھ روم گئے اور اپنے سینے کا بار ہکا کیا۔ اس کے بعد دو روز تک وہ صاحب فراش رہے اور کچھ نہ کھا سکے۔

شنگھائی کے پاس جو کمیون ہم نے دیکھا وہ کنٹین اور ہانگو کے کمیونوں سے زیادہ ترقی یافتہ تھا اس میں پانچ ہزار خاندان ہیں۔ ۲۷ ہزار آبادی، گیارہ ہزار ان میں سے زراعت کا کام کرتے ہیں۔ کمیون کے حلقے میں پندرہ پرائمری سکول ہیں۔ جن میں پانچ ہزار لڑکے پڑھتے ہیں۔ ایک مڈل سکول ہے۔ گیارہ سو لڑکوں کا۔ ۱۲۲ طلبا اس آبادی میں سے یونیورسٹی پڑھنے جاتے ہیں۔ زرعی رقبہ گیارہ سو ایکڑ ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ ۱۹۵۰ء میں ۱۰۳ لاکھ ایکڑ پیداوار ساڑھے بائیس ٹن تھی۔ ۱۹۵۷ء میں اکاون ٹن ہو گئی اور ۱۹۶۵ء میں ۰۳ لاکھ ایکڑ کو پہنچ گئی۔ ایک سو نوے قسم کی سبزیاں یہاں پیدا ہوتی ہیں جو شنگھائی شہر کو مہیا کی جاتی ہیں اور اس کے لیے کمیون کی ملکیت میں ایک ٹرک ہے۔ ۳ سائیکل رکشہ اور ۱۵ سو ریڑھیاں۔ یہ کمیون ۱۹۵۸ء میں قائم ہوا۔ آمدنی فی کس ۱۹۵۷ء میں ۲۴۰ یوان سالانہ تھی (ایک یوان دو روپے)۔ ۱۹۶۵ء میں ۳۸۲ یوان فی کس۔ یاد رہے کہ یہ فی آمدنی ہے فی خاندان نہیں۔ اشیائے ضرورت جیسی سستی چیزیں میں ہیں اور کہیں نہیں۔ اس کمیون میں ایک کارخانہ چارہ کترنے کی مشینوں کا ہے اور ایک کھاد بنانے کا۔ یہ مصنوعات دوسرے کمیونوں کو بھی سپلائی ہوتی ہیں اور کمیون کی مشترکہ خوشحالی کی ضامن ہیں۔ حکومت کا

اس کام میں کیا حصہ ہے؟ پانچ فی صد ٹیکس اور بس۔

یہاں ہم کمیون کے گھروں میں گئے۔ چار چار گھر ایک دو منزلہ بلاک ہے اور اس کے باغچہ، پلنگ، چھپرکٹ، میزیں کرسیاں سب اچھی قسم کی۔ ہم نے پوچھا چھوٹے بچے کہاں ہیں۔ معلوم ہوا زسری میں۔ ہم نے کہا ہم زسری دیکھیں گے۔

زسری پہنچے تو ننھے ننھے بچے بے تابی سے ہماری طرف لپکے۔ ترانہ گایا اور سب سے ہاتھ ملایا۔ دو تین استانیاں ان کی خبر گیری کے لیے تھیں اور چھوٹی چھوٹی کرسیاں بچیں جن پر تین سال، چار سال پانچ سال کا بچہ بیٹھ سکے۔ یہاں ان کو ان کی استعداد کے مطابق کچھ حروف اور ہندسے بھی سکھائے جاتے ہیں لیکن اصل تربیت عادات کی ہوتی ہے۔

صحت و صفائی کی خود ڈالی جاتی ہے۔ یہاں نہ ڈنڈا ہے نہ چٹری۔ جو استاد کی ضرورت ہی نہیں۔ بچے دن بھر کھیلے میں خوش رہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں، گاتے ناچتے ہیں اور سہ پہر کو والدین کے کام سے آنے سے پہلے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ بہت سے گھروں میں بی بیوں کو ہم نے گھر پر ہی دیکھا۔ غالباً ہر روز ان کا کام پر جانا ضروری نہیں۔ معاوضہ کام کے یونٹوں کے حساب سے ملتا ہے۔

زسری میں ہم لوگوں کو بھی انہی بچوں کے برابر انہی منہی منی کرسیوں پر جگہ ملی۔ کوی جسیم الدین نے ایک بنگلہ گیت ان کو سنایا۔ کچھ گیت بچوں نے گائے اور اس کے بعد ناچ ہوا۔ اور تو سبھی لوگ ثقہ تھ ہاں ہم اور اعجاز بٹالوی اس ناچ میں بچوں کے ساتھ شریک ہوئے۔

## چین جانے والے پہلے مسلمان ہم نہیں تھے

پچھلے سال کا ذکر ہے ہمارے ایک عزیز دوست ہمارے پاس تشریف لائے۔ مزاج پرسی کے بعد کہنے لگے کہ مجھے وضو کرن سکھا دو اور نماز کی سورتیں آتی ہوں تو وہ بھی یاد کرادو، وضو کرنا تو ایک کتاب میں دیکھ کر ہم نے انہیں سکھا دیا۔ لیکن سورتوں کے متعلق معذرت کر دی کہ ہمیں بس چار سورتیں نماز کی یاد ہیں۔ وہ آپ کی سکھا دیں تو ہمارے پاس کیا رہے گا لیکن یہ آخری وقت میں مسلمان ہونے کا خیال کیوں آیا؟

فرمانے لگے۔ میں چین جا رہا ہوں۔ یہاں تو اگر نماز نہ پڑھوں تو کوئی مضائقہ نہیں، کیونکہ اسلامی ملک ہے لیکن دوسرے دیس میں جا کر تو باقاعدہ نماز پڑھنی ہی چاہیے ورنہ وہ لوگ جانے کیا خیال کریں اور پھر وہ لوگ تو کمیونسٹ ہیں۔ بالکل خدا کو بھول گئے ہیں۔ مجھے تم اسلام سے ایسا بھی بیگانہ نہ سمجھو۔ ریس کورس بھی جاتا ہوں تو میرے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور کسی گھوڑے پر داؤ لگانے سے پہلے ایک بزرگ سے فال ضرور لیتا ہوں۔ پینا پلانا تو تم خود جانتے ہو ایک زمانے سے کم کر رکھا ہے اب اس سے زیادہ اس عمر میں تو ہوتا نہیں۔

ہم نے دیکھا کہ امریکہ یا برطانیہ کو شاید لوگ دارالاسلام سمجھتے ہیں۔ وہاں جاتے ہوئے کوئی اس قسم کا تردد نہیں کرتا لیکن چین یا روس جاتے وقت اپنے کپڑوں کے ساتھ ساتھ اپنے اسلام کو بھی ڈرائی کلین کرا کے لے جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ایک آدھ نماز تو پیکنگ یا ماسکو کی جامع مسجد میں پڑھ کر اپنی تصویر کھنچوا لے پھر ان ملکوں میں کوئی مسلمان مل جائے تو پہلا خیال لوگ یہی کرتے ہیں کہ ضرور کوئی جعلی ہے۔ ان کی حکومت نے ابھی سے سکھا پڑھا کر اور اسلام علیکم کہنا سکھا کہ ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ ہم سے بھی کنیشن کی مسجد میں کہ وہاں کے مسلمانوں کے محلے میں واقع ہے دو صاحبوں سے ملوایا گیا تو ہم نے گمان کیا کہ مولوی صاحب کی داڑھی پر



جو پانچ چھ بال ہیں محض ہمارے اعزاز میں اگائے گئے ہیں۔ نام ان دونوں صاحبوں نے ہمیں مسلمانوں کے سے بتائے۔ ایک ابراہیم صاحب تھے، اگرچہ اس کے ساتھ چوں چوں چن وغیرہ بھی لگتا تھا۔ دوسرے صاحب کا نام ہم بھول گئے۔ ہمارے ساتھیوں نے وہاں قرآن مجید کے نسخے ملاحظہ کرنے کے بعد شک کا فائدہ ملزموں کو دیا وہ بھی تب جب کہ ایک صاحب نے مولوی صاحب سے سورۃ فاتحہ سن لی۔ اس ایک سورت کو سن کر انہوں نے مولوی صاحب کو پاس ہونے کے نمبر اس لیے دے دیئے کہ خود ان کو صرف یہی سورت آتی تھی۔

اوروں کی بات تو جانے دیجئے..... ہم تو سمجھدار آدمی ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کے آٹوگراف اپنی نوٹ بک میں لیے محض یہ دیکھنے کے لیے کہ عربی رسم الخط سے واقف ہیں یا نہیں۔ بے چاروں نے مجھ کو کہہ ہم ان کی یادگار رکھنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ چپ چاپ دستخط کر دیئے۔ ایک نے ان میں سے بتایا کہ وہ عربی بھی بول لیتے ہیں۔ یہ زبان چونکہ ہم میں سے کوئی نہ جانتا تھا اس لیے ان کی لیاقت کا امتحان کرنے کی ہم نے ضرورت محسوس نہ کی بلکہ ان کے بیان کو کافی سمجھا۔ ہاں اس خیال سے کہ یہ لوگ ہمیں عربی سے بالکل نا بلد نہ سمجھیں۔ ہر فقرے کے ساتھ (جو ہم انگریزی میں بولتے تھے) الحمد للہ، الحمد للہ کا التزام ہم ضرور رکھتے تھے۔ ایک آدھ بار ہم نے ماشاء اللہ اور جزاک اللہ کہہ کر بھی اپنے علم کی وسعت کا ثبوت دیا۔

تلفن برطرف، یہاں سے جانے والے بہت سے مسلمان چلین جاتے ہوئے واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پہلے مسلمان ہیں جو چلین کی دھرتی پر قدم رکھیں گے۔ وہاں جا کر انہیں تعجب (اور شاید افسوس بھی) ہوتا ہے کہ ان سے کوئی ساڑھے تیرہ سو برس پہلے ہی کچھ لوگ جا کر ان سے فضیلت کا یہ شرف چھین چکے ہیں۔ چلین کے تانگ خاندان کی تاریخ قدیم میں مرقوم ہے مہینے کا دوسرا روز تھا۔ خلیفۃ الاسلام کے بھیجے ہوئے ایک وفد کو شرف باریابی بخشا۔ عرب ملاح اپنے بیڑے لے کر جنوبی چلین کی

بندر گاہوں میں زمانہ قبل اسلام میں بھی آتے جاتے تھے لیکن وہ سلسلہ محض تجارتی  
تھام تہذیبی تعلقات کی بناء ظہور اسلام کے بعد پڑی اور جیسا کہ بیان کیا گیا پہلی  
صدی ہجری کے اوائل ہی میں اموی اور عباسی خلفاء کے عہد میں چین میں جو سفارتیں  
عرب آئیں۔ ان کی تعداد بیسیوں تک پہنچتی ہے ابھی پچھلے دنوں میں سیان میں جو  
کھدائی ہوئی تو وہاں سے اموی عہد کے سکے بھی برآمد ہوئے۔ بعد کی داستان  
طویل ہے۔ جن کو دلچسپی ہو وہ انجمن ترقی اردو پاکستان کی شائع کردہ کتاب ”چین و  
عرب کے تعلقات“ میں دیکھ سکتے ہیں جو ایک چینی عالم مولوئی بدرالدین چینی نے  
لکھی تھی۔ یہ صاحب جامعہ ازہر کے فاضل بھی تھے اور جامعہ ملیہ دہلی میں زیر تعلیم  
بھی رہے۔

چین میں مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ عالم اسلام سے آنے والوں کا  
اثر صرف دین مبین کی تبلیغ تک محدود نہیں رہا بلکہ اسلامی دنیا سے وہ سائنس اور طب،  
ریاضیات اور ہیئت کے علوم کے تحفے بھی لائے۔ چینی کیلنڈر کی تدوین میں بھی ہجر  
تقویم سے مدد لی گئی۔ چینی سائنس دان جمال الدین جو بارہویں صدی عیسوی میں  
گزر رہا ہے۔ ایک بڑا ہیئت دان تھا۔ چودھویں صدی میں ما شیخ اور دوسرے مترجموں  
نے عربی سے ترجمے کر کے چین کی سائنس کو ایسے ہی مالا مال کیا جیسے عباسی عہد کے  
مترجموں نے اپنے ہاں کے علوم کی زمین کو آسمان کیا تھا۔ تیرھویں صدی کے سر  
بر آوردہ چینی مصوروں میں بھی کاؤ کے کنگ نام کے ایک مسلمان تھے اور اسی عہد  
کے ایک عالم شمس الدین تو بہت مشہور ہیں جنہوں نے فلسفے، تاریخ، ادب، ریاضی،  
فلکیات، جغرافیہ حتیٰ کہ انجینئرنگ پر بیسیوں تصانیف چھوڑی ہیں۔ چین خاص کے  
مسلمان گورنروں اور جرنیلوں کے تذکرے کا یہاں موقع نہیں جنہوں نے ہر عہد میں  
بڑے معرکے مارے نہ دینی علوم کی درس گاہوں کا تفصیلی احوال ہم لکھ سکتے ہیں۔

چین کی ایک کتاب ”مسلمانان چین کی اصلیت“ میں جو سولہویں صدی کی

تصنیف ہے لکھا ہے کہ اسلام چین میں ۶۲۸ء میں پہنچا۔ وہ یوں کہ بادشاہ چینگ کو آن نے خواب میں دیکھا کہ ایک عجیب شکل جانور اس پر حملہ کر رہا ہے اور ایک سفید عمامے والا شیخ آکر اسے بچاتا ہے صبح کو بادشاہ نے وزیر سے اس کی تعبیر پوچھی تو ایک بڑے عالم نے بتایا کہ سفید عمامے والا شیخ وہ عرب قوم ہے جو غرب میں رہتی ہے۔ ان کی بڑی شوکت اور قوت ہے۔ معلوم ہوتا ہے، کوئی مخالف عنصر بغاوت کرنے والا ہے جس کا مقابلہ عرب کی قوت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔

یہ سن کر بادشاہ نے ایک سفیر بلا دے اور عرب بھیجا اور عرب فوج کی کمک مانگی۔ تین ہزار عرب سپاہی اس دعوت کے جواب میں آئے جو چینی مسلمانوں کے آباؤ اجداد ہوئے۔ اس وفد کی قیادت تین معرکہ آرا کر رہے تھے۔ ایک کا نام قیس تھا۔ دوسرے کا اولیس اور تیسرا وقاص۔ پہلے دو تو ہوا کی تاثیر سے راستے میں انتقال کر گئے۔ مگر وقاص کو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا وہ بادشاہ کے بڑے مکرم مہمان ہوئے۔

کچھ اور کتابوں میں بھی روایتیں ملتی ہیں۔ کچھ قوی کچھ ضعیف۔ بہر حال کنیشن کے نواح میں جو مقبرہ حضرت ابی وقاص کا ہے۔ اس کے متعلق بیان اور روایت یہی ہے کہ رسول اللہ کے صحابی تھے۔ جن کو اس میں شیک ہے وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ وہ عالم عرب کی کوئی ممتاز شخصیت تھی جو پہلی صدی ہجری میں وارد چین ہوئی۔

پیکنگ کی شاندار مساجد کا جلال و جمال دیکھنے والے کو مبہوت و متحیر کرتا ہے۔ ہانگ چو میں بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے۔ یاد رہے اس وقت ہم خالص چینی الاصل علاقوں اور آبادیوں کی بات کر رہے ہیں۔ ورنہ سنگیانگ کے ایغور ترک اور تاجکستانی اور قزاق تو ہیں ہی مسلمان جو وسط ایشیاء کا حصہ ہیں اور قوقند و ختن سے ہم تہذیبی اور تاریخی طور پر آشنا ہیں۔

کنیشن کی جس مسجد میں ابراہیم صاحب اور دوسرے بزرگ ہمیں ملے، پرانے زمانے کی ہے اور اس کے احاطے میں ایک مینار ہے جسے ہم نے ماؤنڈ خیال کیا تھا

لیکن معلوم ہوا کہ لائٹ ہاؤس کا کام دیتا رہا ہے۔ ہماری منزل حضرت ابی وقاص کا روضہ تھی۔ یہ شہر سے چار پانچ میل باہر ہے۔ راستے میں مسلمانوں کا پرانا قبرستان آیا۔ بڑی ہری بھری جگہ ہے اور ان قبروں کے درمیان گزرتے ہوئے دل کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اس روضہ اطہر کا اثر دل پر گہرا اور پائیدار ثابت ہوا۔ بزرگ دفن تو یہاں ہیں لیکن ان کے قدم ہانگ چو اور مشرقی چین کے دوسرے شہروں میں بھی پہنچے اور یوں کہنا چاہیے کہ اسلام کا پودا چین کی سر زمین میں انہی بزرگ نے کاشت کیا۔ روضے کے اندر بھی ایک مسجد ہے۔ ایک تنگ دروازے کے روضے کی گنبدی عمارت میں داخل ہو کر ہم سب نے فاتحہ پڑھی اور دل کو گداز کیا۔

سوچو میں کاشنگائی سے ڈیڑھ سو میل شمال میں ایک شہر باغات ہے اور پر فضا ہونے میں ہمارے نزدیک چوکی دلکشانی کو بھی مات کرتا ہے۔ ایک شام ہم یونہی بازار میں گھوم رہے تھے کہ ایک بڑا ہجوم ہمارے گرد جمع ہو گیا۔ کنیشن یا شنگائی یا پینگ میں ایسا کبھی نہ ہوا تھا لیکن سوچو چھوٹا قصبہ ہے اس لیے ان کا استعجاب قدرتی تھا۔ خیر سگالی کے سلاموں اور نعروں کے بعد۔ ہم نے ان لوگوں کو رخصت کرنا چاہا لیکن PIED PIPER کی کہانی کی طرح یہ ساری جمعیت ہمارے پیچھے ہوئی۔ ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے ہم ایک احاطے میں داخل ہو گئے۔ جو لاوڑے کا معبد تھا۔ اور اس میں کوئی بیس گز اونچی مورتی اس کی رکھی تھی۔ وہاں سے نکلے تو معلوم ہوا کہ ہجوم چھٹا نہیں اور بڑھ گیا ہے۔ اب ہم نے ٹیڑھی میڑھی گلیوں کی بھول بھلیاں میں جانے میں عافیت دیکھی۔ یہاں کچھ امان ملی۔ یکا یک کسی صاحب نے اشارہ کیا ”اوھر دیکھو“ ہم نے نظر دوڑائی تو بورڈ نظر آیا ”اسلامیہ ہوٹل“۔

اسلامیہ ہوٹل والوں نے ہماری تواضع کرنے کی تو بہت کوشش کی۔ جب یہ معلوم ہوا کہ ہم پاکستانی مسلمان ہیں یعنی کریلے اور نیم چڑھے۔ لیکن اس کا موقع نہ



تھا اور پھر یہ ہوٹل بہت صاف بھی نہ تھا۔ جیسا مسلمانوں کا ہونا چاہیے اور ہمارے  
 ہاں ہوتا ہے۔ ویسا ہی تھا۔ ہماری براہ راست گفتگو تو اسلام علیکم اور الحمد للہ تک محدود  
 رہی لیکن ترجمانوں کے ذریعے معلوم ہوا کہ وہ ساری آبادی مسلمانوں کی ہے یعنی  
 اس حصہ شہر میں بارہ مسجدیں ہیں اور اٹھائیس سو گھر مسلمانوں کے ہیں۔ ہم پاکستانی  
 حلال و حرام کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ لندن میں بھی بڑے بڑے بورڈ لگے  
 ہوتے..... ”یہاں حلال گوشت ملتا ہے“ دریافت کرنے پر معلوم ہوا اس ہوٹل میں  
 بھی ذبیحہ ہوتا ہے۔ کتے بلیوں کا گوشت جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ چینی کھاتے  
 ہیں (اس میں بھی بہت مبالغہ ہے) اسلامی ہوٹلوں میں نہیں ہوتا۔ اس پر مشرق وسطیٰ  
 کا ایک اسلامی ملک یاد آیا جس کے ایک سولہ آنے اسلامی ریسٹوران میں ہم جا کر  
 بیٹھے تو بیرے نے کہا۔ صاحب کیا کھائیے گا۔ بکرے کا گوشت بھی ہے گائے کا بھی  
 ہے اور سور کا گوشت تو بہت ہی عمدہ ہے۔

©2002-2006

## ہم بھی ایک دن کے لیے گوریل بن گئے

چین کو ہم نے اور ہمارے رفیقوں نے ایسے دیکھا جیسے ایک کہانی میں سات اندھے ایک ہاتھی کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنی اپنی ٹٹول کے مطابق اس پر حکم لگاتے ہیں جس کے ہاتھ اس کے کانوں پر جا پڑیں۔ اس نے کہا ہاتھی نکلے جیسا ہے جس کے ہاتھ دم آئی ہے اسے وہ رسی کا سا معلوم ہوا۔ ہمارے ایک ساتھی جن کا یہاں یونیورسٹی میں تنخواہ کا چکر چل رہا ہے کسی کارخانے میں جاتے تو یہی پوچھتے کہ یہاں لوگوں کی تنخواہیں کیا ہیں اور ترقی کا چانس کیا ہے۔ ایک اور بزرگ یہاں ٹھیکے پر پل، چاہ، مسجد و تالاب اور ایسے ہی دیگر فیض کے اسباب بناتے ہیں وہ یہی دریافت کرتے کہ اس عمارت پر کیا خرچ آیا۔ حتیٰ کہ دیوار چین کے بارے میں بھی انہوں نے یہی استفسار کیا ایک محقق تھے کہ جاتے ہی پوچھتے، یہاں قلمی کتابیں ہیں کیا؟ ایک ہمیشہ سبز نوں کے بھاؤ پوچھتے یا یہ کہ یہاں گائیں کتنا دودھ دیتی ہیں۔ لیکن ایک صاحب ایسے بھی تھے کہ کسی جگہ پہنچتے ہی پہلا سوال یہ دریافت کرتے یہاں کوئی ٹائلٹ ہے۔ بھائیو مجھے بیت الخلاء کی راہ بتاؤ۔ ان سے ہم نے کئی بار عرض کیا کہ خوراک بے شک مفت ہے لیکن پیٹ تو آپ کا اپنا ہے لیکن وہ اس برہان قاطع سے ہمیں خاموش کر دیتے کہ چین کوئی ہر روز تھوڑی آتا ہے۔ کھانے میں تکلف کیا تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟

ایک شام ہم نے شنگھائی کے بچوں کے کلچرل پیلس میں گزاری۔ بچوں کے لیے کلچرل پیلس یا قصر ثقافت وہاں ہر شہر میں ہے اور بڑے شہروں میں تو کئی کئی ہیں۔ واپسی سے ایک روز پہلے شنگھائی میں یہ ہمارے پروگرام میں تھا۔ گھر کے بھاگ دروازے سے نظر آ گئے۔ ہمیں کانٹے دار تاروں سے بچ بچ کر گزرنا پڑا۔ آگے ایک تین انچ چوڑی دیوار پر چلنا پڑا۔ پل صراط کی چوڑائی غالباً اس سے کچھ ہی کم ہوگی۔ ہمارے معمر ساتھی تو بری مشکل سے سنبھلے۔ ایک آدھ جگہ کو دھاند بھی کرنی پڑی۔ تب

ہم اس قصر کے دروازے پر پہنچے۔ ہم نے ایک خندق بھی اس طرح پار کی کہ آر پار رسا بندھا تھا۔ اسے ہاتھوں سے پکڑ کر چلے۔ ٹانگیں ہماری خلاء میں معلق تھیں اور نیچے خندق تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ سب مشقیں بچوں کو سکھائی جاتی ہیں کہ کل کلاں ملک پر کوئی آفت آن پڑے ہڑائی ہو تو یہ سواری گویلا کارروائیاں کام آئیں..... ہمارے ہاں ایسے ہرڈل یا رکاوٹیں باقاعدہ فوج کو سکھائی جاتی ہیں، وہاں بچوں سے شروع کی جاتی ہیں۔

اب دروازے پر بچے بچیوں کا ہجوم ہماری پیشوائی کے لیے کھڑا تھا۔ سب نے نعرے لگائے اور ترانہ گایا۔ فوراً ہی لپک کر دو دو بچیاں اور بچے ہم سے آچھٹے اور ہمیں انکل بنا لیا۔ اب ہماری رہنمائی انہی کو کرنی تھی۔ بڑے خوب صورت اور سمارٹ بچے تھے اور ہمیں اپنے قصر کے ایک ایک شعبے میں لگے گئے۔ ایک جگہ بچیاں تصویریں بنا رہی تھیں۔ ایک جگہ بچے نشانہ بازی کی مشق کر رہے تھے۔ نشانے پر ایک امریکی جہاز تھا اور اسی کی شہت لگتی ہوتی تھی، ایک جگہ میوزک ہو رہا تھا۔ بس سات سات آٹھ آٹھ برس کے بچے ہوں گے۔ ایک جگہ مشینیں تھیں ریڈیو وغیرہ کا انجر پنجر کھلا تھا۔ بچے خود ہی ریڈیو توڑ جوڑ رہے تھے۔ ایک طرف بیسیوں بچے مطالعے میں مشغول تھے۔ اچھی خاصی لائبریری تھی۔ یہ عمارت سہ منزلہ تھی اور یہاں بچے گرد و نواح سے ہر شام آتے ہیں۔ کھیلتے ہیں اور کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں۔ کتابوں اور کھیلوں، میوزک اور ڈرامے سب میں ہم نے دیکھا کہ قومی نصب العین کو کسی صورت او جھل نہیں ہونے دیا گیا۔ یہیں ایک کمرے میں ہمیں چٹلیوں کا تماشا دکھایا گیا۔ ہم نے چٹلیوں کے تماشے اور بھی دیکھے ہیں لیکن ایسا کم خرچ بالائشیں نہیں۔ ایک مشاق استاد بچوں کو یہ سب کچھ دکھاتا ہے۔ باہر ایک چھوٹا سا تالاب تھا جس میں اگن بوٹ ایک دوسرے کا پیچھا کر رہے تھے یہ بھی جنگی سرگرمیوں کی ایک شکل تھی۔

ہمارے دوست احمد علی خان ڈان والے ابھی حال میں چین سے واپس آئے ہیں۔ بچوں کے کلچرل پیلس میں وہ بھی گئے۔ پوچھنے لگے تم سرنگ میں بھی گھسے۔ ہم نے کہا۔ نہیں بولے۔ ظالموں نے تو مجھے ایک لمبی سرنگ میں گھسا دیا کہ دوسری طرف نکلو۔ سوٹ کاستیا ناس ہو گیا اور گھٹنے چھل گئے..... چونکہ وہ سرنگ بڑوں کے لیے نہیں بچوں کے لیے تھی اس لیے ایک جگہ تو میں ایسے پھنس گیا جیسے ڈاٹ لگ گیا ہو۔ عینک نیچے گر پڑی اور ہاتھ میرے آزاؤں تھے کہ اٹھا سکتا۔ آخر ایک بچی نے دوسری طرف سے جھانکا اور خیریت دریافت کی۔ پہلے میری عینک نکالی پھر مجھے برآمد کیا گیا۔

اسی طرح مزدوروں کے لیے ثقافتی مرکز ہیں۔ مزدوروں کا ایک کلچرل پیلس ہم نے پیکنگ میں دیکھا تھا جو ایک پرانے شاہی محل کی عمارت ہے اور جس کے چوبی ستون خدا جانے کسی درخت کے ہیں کہ چالیس فٹ، ساٹھ فٹ شاید اس سے بھی زیادہ سیدھے چلے گئے ہیں۔ ایک ہی تنے کا پورا ستون ہے اور بیسیوں ستون ہیں جانے کتنی دور سے کن جنگلوں سے لائے گئے ہوں گے۔ لیکن زیادہ تفصیل سے ہم نے شنگھائی اور کنٹین کے کلچرل پیلس دیکھے۔ یہاں بھی لوگ آتے ہیں پڑھتے ہیں۔ ڈرامہ منڈلیاں میں جو ڈرامے کھیلتی ہیں۔ ایک طرف میوزک کی کلاس ہے۔ دوسری طرف لائبریری ہے۔ شنگھائی کا کلچرل پیلس میں سائیکلوں کے کرتب بھی ایسے ایسے دیکھے کہ پیشہ ورمداری ہان مان جائیں۔ ان میں جو شخص ہمیں سب سے مشاق اور باکمال نظر آیا۔ تعارف پر معلوم ہوا کہ ڈاک خانہ کا ملازم ہے۔ چٹھیاں بانٹتا ہے۔

انہی کسرتوں اور مشقتوں کا تو طفیل یہ ہے کہ وہاں نہ ٹیڈی ازم ہے نہ اعصابی بیماریاں، نہ نفسیاتی حارضوں کے ڈاکٹر۔ غالباً ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ سارے چین میں ایک بھی آدمی ایسا نظر نہ آیا جس کا پیٹ ڈراسا بھی بڑھا ہوا ہو یا جس کے چہرے پر زردی ہو۔ آخر کیوں ہو؟



چین میں مغربی طریقہ علاج اور مغربی طرز کی دوائیں بھی ہیں اور مشرقی یعنی چینی بھی۔ ہر شہر میں ہم نے مغربی اور دیسی دواؤں کے سٹور دیکھے۔ ان کا طریقہ علاج بہت پرانا اور موثر ہے۔ ہمارے حکیم محمد سعید دہلوی صاحب نے تو اس پر انگریزی میں ایک کتاب بھی لکھ دی ہے لیکن اس طب چین سے اس کا تعلق ہونا ضروری نہیں جس کے اشتہارات آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں۔ یہ صاحبان کب چین گئے؟..... کیوں گئے کس سے طب سیکھی۔ اور کہاں سے سند حاصل کی۔ یہ وہی جانیں یا ان کے مریض پوچھیں..... جاپان میں ہم نے انگوٹھیوں اور چھلوں کے متعلق بھی پوچھا تو معلوم ہوا عطائیوں کا کاروبار ہے۔ ایٹم ویٹم کی بات محض افسانہ ہے۔ وہاں کے محکمہ صحت یا میڈیکل پیسے والا کا استناد اسے حاصل نہیں۔ یورپ میں بھی یہ چھلے اور انگوٹھیاں بہت چلے اور ان کے متعلق بھی یہی دعوے تھے کہ ہر مرض کا علاج ہیں لیکن بعد میں پیسے ماننے کا کارخانہ ثابت ہوئے تو حکومت نے پابندی لگا دی۔ ہمارے ہاں دیکھئے چین اور جاپان کے نام پر یہ کارخانے کب تک چلتے ہیں۔

## سوچو میں تین دن

مئی کی آٹھویں تاریخ تھی کہ ہم نے سامان سفر باندھا۔ پیکنگ دیکھ چکے تھے۔ کنٹینر جا چکے تھے۔ وہاں میں تین راتیں گزاری تھیں اور ہانگ چو کی سیر سے بھی دل کو شاد کام کیا تھا۔ لیکن حب وطن از ملک سلیمان خوشتر والی بات ٹھیک ہی ہے۔ چینوں کی بے پناہ خاطر خاطر اور تنجن و بریانی کے باوجود ہمیں اب وطن کی دال اور وطن کا خشکہ بلارہا تھا۔ تین ہفتے بہت نہیں ہوتے لیکن اب دل اُوب گیا تھا۔ شنگھائی میں قیام کو بھی اب قریب قریب ایک ہفتہ ہو رہا تھا۔ لہذا ہم نے جلدی جلدی اپنے باقی ماندہ پیسے خرچ کئے اور سرشام جیبیں جھاڑ کر بیٹھ گئے۔ کوئی اور ملک ہوتا تو اچھی خاصی رقم بیروں، خائساموں اور چوکیداروں کی بخششیں کے حساب میں پس انداز کرنی پڑتی لیکن یہاں بخشش کا بھی کوئی نمنا نہ تھا۔ آخری بار ساسون ہوٹل کے کمرہ نمبر ۵۳۶ کے دروازے پر حسرت کی نظر کی اور چائی چن، چائی چن (خدا حافظ، خدا حافظ) کرتے ہوئے نیچے اترے۔ موسم کچھ ابراؤد سا تھا بلکہ پہلی رات مینہ بھی برسا تھا اور دن میں بھی ترشح ہوتا رہا تھا لیکن اب کچھ تھم سا گیا تھا۔ شب گذشتہ مشہور افسانہ نگار پاچن کی معیت میں دیر تک پاکستان اور چین کے ادبی مسائل پر گفتگو رہی تھی۔ پاچن ہمارا ہوائی اڈے پر خیر مقدم کرنے کے لیے پہلے سے روانہ ہو گئے تھے۔ ہمارے دوست لیجاہ ہمارے ساتھ تھے۔ موٹر دریا کے گھاٹ کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی جس کی ساحلی سیرگاہ انقلاب سے پہلے جسم فروشوں کا مرکز تھی۔ پھر وہ محلے آئے کہ چین کا حصہ ہوتے ہوئے بھی چین والوں کے نہ تھے۔ اس حصے کو فرانسیسی سلمنٹ کہتے تھے۔ وہ حصہ جرمنوں کے زیر نگیں تھا اور یہ ساری قلمرو انگریزوں کی تھی۔ اور یہاں سے وہاں تک جاپانیوں کا راج تھا۔ یعنی یہاں پولیس بھی اور قانون بھی غیر ملکیوں کے تھے۔

لیجاہ کو کہ وہاں ایک نامی انقلابی اور ناول نویس تھا اور بے حد خوش باش اور خوش

اطوار۔ ہم اپنے دوران قیام میں ہمیشہ عالی جاہ کہتے آئے تھے۔ اس نے معنی پوچھے تو ہم نے بتایا کہ اس کا مطلب ہے عالی شان، بلند مرتبہ وغیرہ۔ اس نے بطیب خاطر اسے قبول کیا لیکن اب واپسی میں ہم نے اس سے کہا کہ میاں ہم تم کو جو یہ خطاب دیے جا رہے ہیں اسے باقی رکھنا۔ بڑی عزت کا خطاب ہے۔ ہمارے ہاں رؤسا اور والیان ریاست وغیرہ کو عالی جاہ کہہ کر خطاب کیا جاتا تھا۔ تو وہ یک لخت سنجیدہ ہو گیا۔ بولا کیا جاگیرداروں اور والیان ریاست کو عالی جاہ کہہ کر خطاب کرتے تھے۔ ہم نے کہا۔ بے شک، بولا پھر آپ اسے واپس لیجئے۔ میں لیجاہ ہی ٹھیک ہوں مجھے لیجاہ ہی کہیے۔ عالیجاہ کہلانا مجھے منظور نہیں۔

اب یہ سارا چین کہ جس کی زندگی کہ نہج بھی نئی ہے اور سوچنے کی روش بھی نئی ہے۔ پیچھے رہا جا رہا تھا۔ کسی شاعر کا مصرع یاد آ رہا تھا وہ گلیاں یاد آئیں گے..... جوانی جن میں کھوئی تھی۔ ہانگو کی جھیل جس کا طواف ہم نے عین چودھویں کی رات کو کیا تھا اور شب بھر کسی کا چرچا کرتے رہے تھے۔ کنیشن یاد آیا۔ جہاں ۴ مئی کو شہیدوں کی یادگار کے باغ میں رنگارنگ لباس والے ہزاروں طالب علموں کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھیوں نے ان کے انقلابی پرچم اٹھائے تھے۔ پیکنگ کے قومیتوں کے محل میں تبت کے ہال میں وہ پنجرہ یاد آیا۔ جس میں انسان کے بس کھڑے ہونے کی جگہ تھی۔ وہ بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ پیٹھ بھی نہ ٹیک سکتا تھا کیونکہ اس کی چوبی سلاخوں پر خاردار تار چڑھے تھے۔ اب وہ لوگ کہ ان پنجرہ کے اندر تھے۔ اقصائے چین کے حکمران نظر آئے اور ان کو قفس بند کرنے والے لوگوں کو ہانگ کانگ اترتا پئے میں، کالپونگ اور دہلی میں غیروں کے آگے بے غیرتی کا کاسہ پھیلانے سرگرداں دیکھا۔ پیکنگ کا چن شن پارک بھی یاد آیا جو امپریل پولیس کے سامنے اونچی پہاڑی پر واقع ہے اور جہاں پہلے فقط بادشاہ ہی قدم رکھ سکتے تھے۔ یہاں ہم نے دیہاتیوں اور کسانوں اور مزدوروں کو اس میں دندنا تے دیکھا۔ خود

امپریل پولیس کا شہر ممنوع بھی یاد آیا جس میں دروازے ہی دروازے، غلام گردشیں ہی غلام گردشیں تھیں اور آنگن ہی آنگن تھے۔ اس کے دیوان خاص اور دیوان عام کی کرسیاں اونچی رکھی گئی تھیں تاکہ کسی عامی کا امکان اتنا اونچا نہ ہو پائے۔ اور اب ان اونچے مکانوں کے یکنوں کی ہڈیاں کا بھی پتہ نہ تھا۔ ہاں وہ درخت اب بھی باقی تھا۔ جس کی شاخوں سے لٹک کر ایک متمر و بادشاہ نے خودکشی کی تھی۔ اب ان مرتفع میدانوں میں نیلی پتلون اور واسکوں والے مزدور جوتوں سمیت گھومتے نظر آئے۔ دیوار چین بھی یاد آئی کہ جس کی بنیادوں میں ہزاروں بے کاری مزدوروں کی ہڈیاں فاسفورس بن چکی تھیں۔ اب نہ بادشاہ تھے، نہ درباری، نہ کاہن نہ امیر۔ کانوں میں جمبول جابر کا آوازہ گونج رہا تھا۔ ”اے امیر اب نہ بدخشاں کی طرف رخ کرنا۔“

نہ جانے کب شنگھائی کا ایئر پورٹ آگیا۔ پاچن اور ان کے ساتھی صف بستہ کھڑے تھے۔ ہم خوشی خوشی بچے اترے کہ ان کو خدا حافظ کہیں اور رخصت ہوں لیکن ان کے چہرے سنجیدہ اور متوش تھے۔ معلوم ہوا کہ پی آئی اے کا جہاز کنیشن سے چل کر شنگھائی آیا ضرور۔ لیکن بادلوں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کے باعث نیچے نہ اتر سکا۔ اور سیدھا پاکستان چلا گیا ہے۔ اب تین روز بعد آئے گا۔ انتظار صاحبان انتظار، صبر حضرات صبر، اب پھر اوس پڑ گئی۔

تھوڑی دیر بیٹھے جس جس سے ہوسکا اس نے ٹیلیکس پر کراچی پیغام بھجوادیا۔ چائے پی اور پھر انہی موٹروں میں سواریہ قافلہ ساسون ہوٹل کو روانہ ہو گیا۔ جاتے وقت جو رقت آمیز اور پر خلوص کلمات میزبانوں اور مہمانوں نے ایک دوسرے پر صرف کئے تھے وہ ضائع گئے۔ خیر اب مزید تین روز تھے اور شنگھائی تھی۔ پھر دوستوں کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو! لیکن راستے میں یکا یک مجھے خیال آیا کہ روانگی کے وقت پیر حسام الدین راشدی صاحب کو بڑے راشدی صاحب یعنی پیر علی محمد راشدی مدخلہ چھوڑنے آئے تھے تو تاکید کی تھی کہ شنگھائی جاؤ اور موقع لگے تو سوچو



ضرور جانا۔ ایسا پر فضا مقام اور کہیں نہ پاؤ گے۔ لہذا ہم نے اپنی ڈائری نکال کر اپنی یادداشت کو تازہ کیا اور میزبانوں سے کہا کہ صاحبو شنگھائی تو ہو چکی مضائقہ نہ ہو تو یہ جبری رخصت سہ روزہ سوچو میں صرف کی جائے۔ ان کے بھی جی یہ بات لگی۔ چنانچہ ہوٹل پہنچتے پہنچتے یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ رات شنگھائی میں گزاری جائے۔ اگلی صبح ریل سے سوچو چلیں گے۔ دو گھنٹے کا راستہ ہے اور پھر روانگی کی دوپہر، شنگھائی واپس۔ سبھی نے کہ شنگھائی کی اونچی عمارتوں سے اکتا چکے تھے۔ اس تجویز پر صاف کیا۔ ہم نے اپنے کمرے میں آکر ردی کی ٹوکری سے اپنی ہیر آئین کی شیشی اور چپل نکالی جن کی ہمارے خیال میں ہمیں ضرورت نہ رہی تھی۔ اور جن بیروں کو چائی چن اور خدا حافظ کہہ کر گئے تھے انہی کو ہاتھ اور السلام علیکم کہہ کر پھر یاد کیا۔ سوچو کا سفر بہت خوش گوار رہا۔ دو گھنٹے کی تو بات تھی۔ چائے کے نام پر خوشبودار گرم پانی پیتے گئے اور گپ ہانکتے گئے۔ پانچ لاکھ کی آبادی کا یہ قدیم شہر جو اپنے باغوں اور سیرگاہوں کے لیے مشہور ہے دریائے نیکی کے جنوب میں شنگھائی سے نانکنگ جانے والی ریل کی راہ پر واقع ہے۔ تاریخ اس کی ڈھائی ہزار سال پرانی ہے۔ اس کے فلک بوس پگوڈوں اور مناروں نے خدا جانے زندگی کی کتنی گردشیں دیکھی ہوں گی۔ یہ باغوں کا شہر ہے لیکن باغ سے مطلب اس شہر میں محض سبز باغ نہیں ہے بلکہ پتھروں اور چٹانوں کو تراش کر عجب عجب نقشے بنائے گئے ہیں۔ جھیلیں ہیں اور ان کے اوپر سے گزرتے بچ دار پل ہیں۔ جھروکے ہیں، جن سے روسائے وقت بارش کے گرنے کا منظر دیکھتے تھے۔ اور لطف اٹھاتے تھے۔ ان پرانے باغوں کا اسلوب عجیب ہے۔ جس طرح پنجاب کے دیہات کے گھروں میں آنگن گھر کے آگے ہوتے ہیں۔ اور چار دیواری میں ایک سامنے ایک دروازہ ہوتا ہے ایسا ہی چین کے باغوں کا حال ہے۔ سڑک سے گزرتے ہوئے کبھی یہ قیاس نہیں ہو سکتا کہ اس عام قسم کے دروازہ کے پیچھے کیسی دنیا بنائی رنگارنگ ہے۔

باغ ایک سے ایک اچھا ہے لیکن ہماری کوشش کے باوجود حافظے میں ان سب کے نام گھل مل گئے کسی کی جھیل یاد ہے کسی کا سبزہ۔ کسی کا سائبان کسی کی پہاڑی۔ ہاں جو یادگار تصویریں اس موقع پر کیمرے نے کھینچیں ان سے نقشہ کچھ نہ کچھ بنتا ہے۔ چینوں کی ایک خصوصیت کہ ان کے آرٹ کا کمال ہے۔ کوتاہ قد درخت ہیں۔ باکمال باغبان ان کی ترش خراش اس طور پر کرتے ہیں کہ پودا درخت مع اپنے ٹہنوں کے ایک ڈیڑھ فٹ اونچا جا کر رک جاتا ہے۔ ہم نے ایسے درخت دیکھے جن کی عمر ایک صدی سے بھی زیادہ تھی۔ لیکن گملوں میں لگے تھے۔ درختوں کے یہ مخفف، لوگ اپنے ڈرائینگ روم میں سجاتے ہیں۔

دن بھر سیر ہوئی بعض پگوڈے بھی دیکھے کہ دیکھتے کے ہیں ان پر ہم چڑھے بھی اور اترے بھی لیکن سیرشبانہ کا لطف ہی کچھ اور تھا۔ اس میں سوائے اعجاز کے کوئی ہمارا ساتھ نہ دیتا تھا۔ پہلی شام کوچوں میں ہوتے ہوئے رات کے گیارہ بجے ہم ایک آبادی میں پہنچے۔ سامنے دیکھا کہ ریلوے سٹیشن کو جانے والی راہ پر ایک شخص بڑا سا مٹکا لیے کوئی ہانک لگا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ چائے بیچ رہا ہے اور خون دل کی یہ کشید مفت لگا دی ہے۔ یعنی دو دو پیسے کی پیالی ہے ساتھ ہی کچھ مرمرے بھی تھے۔ واپسی پر ایک دیوار پر کچھ لکھا دیکھ کر ہم رک گئے ایک اور شخص بھی ہمیں دیکھ کر رک گیا اور ہمارے پوچھے بغیر ہی بتانے لگا کہ یہ کیا ہے لکھا تھا ”بیچ سالہ پلان کو کامیاب بنائیے“۔

یہ شخص جس کے ہاتھ میں ایک ٹونٹی دار کیتلی تھی اور لباس سے کسی کارخانے کا مزدور لگتا تھا، بڑا ہی خالی قسم کا انقلابی تھا اس کا کوئی فقرہ ماؤزے تنگ کی ستائش سے خالی نہ تھا۔ افسوس اس کی پوری کہانی ہمیں یاد نہیں رہی۔ لیکن اس کی اپنی زندگی محبت اور قربانی کی مثال تھی اور اس کا خلوص ہمیں متاثر کئے بغیر نہ رہا۔

اگلی شب پروگرام تو اور بھی تھے لیکن معلوم ہوا کہ فلاں تھیٹر میں داستان گوئی کی

محفل ہے۔ ہم نے شنگھائی کے مزدوروں کے محل میں..... جوان کا قصر ثقافت ہے داستان گوئی دیکھی تھی۔ کہ ایک شخص کھڑا کہا نہ کہ رہا ہے اور لوگ ہمہ تن توجہ اسے سن رہے ہیں لیکن یہاں کا نقشہ دوسرا تھا۔ دیکھا کہ اسٹیج پر ایک میز پر تین فرد بیٹھے ہیں۔ ایک مرد کہ میز کے صدر میں ہے اور دو خواتین داہنے بائیں۔ تھوڑی دیر میں کسی نے طنبورے پر تناتن کی جو منادی تھی اس بات کہ کہ صاحب اب توجہ۔ اس کے بعد مرکز میں بیٹھے آدمی نے گفتگو کا آغاز کیا۔ سادھارن سا آدمی تھا اور معمولی انداز میں بول رہا تھا۔ لیکن پھر اس کا چہرہ جاگا۔ بھویں جاگیں۔ آنکھیں روشن ہوئیں اور ہر موئے بدن زبان بن گیا۔ چہرے کا ایسا اتار چڑھاؤ ہم نے آج تک نہ دیکھا۔ یہ داستان بھی طوطے یا مینا یا حاتم طائی کی نہ تھی نہ اس میں ہوشربائی کا کوئی عنصر تھا بلکہ جاپانی قبضے کے دنوں کا ایک قصہ تھا۔ جب کہانی میں ایک ڈرامائی موڑ آیا تو اس مرکز والے شخص نے توقف کیا اور دوسری لڑکی نے مالک مکان کا روپ دھار کر پٹ پٹ بولنا شروع کر دیا۔ اب کہانی کے گوریلا سپاہی کی باری تھی۔ اس موقع پر سر رشتہ تقریر دوسری صاحبہ نے سنبھالا۔ اور پھر بیچ میں وہ مرکز والا آدمی شروع ہو گیا۔ کسی کا کوئی پارٹ مخصوص نہ تھا۔ اس لحاظ سے یہ داستان گوئی ڈرامے سے الگ چیز رہی۔ لیکن ہم نے ایسے باکمال ایکٹر نہ دیکھے تھے کہ فقط آواز اور چہرے کے اتار چڑھاؤ سے پورا نقشہ کھینچ دیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو چین کی مشہور منڈلی تھی۔ دیہاتی زبان بولتی تھی۔ اور سارا سال یہاں وہاں دیہات اور قصبوں میں گردش کرتی رہتی تھی۔ سوچو شہر تھا اس لیے یہاں ٹکٹ بھی تھا لیکن ہاؤس فل تھا۔ ہمیں تو معزز زمہمان ہونے کی وجہ سے جگہ دی گئی تھی۔

اپنے مترجم سے ہم نے کہا عزیز من۔ جو کچھ یہ شخص کہہ رہا ہے ڈراما اس کا ترجمہ کرتے جاؤ اس نے کہا۔ ترجمہ کیسے کروں۔ اس کی زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ شنگھائی کے نواح کی بولی ہے میں پیکنگ کا رہنے والا ہوں۔ ہم نے کہا۔ تم

شنگھائی کا اخبار تو صبح خوب پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مکتوبی یعنی لکھنے کی صورت ہر جگہ ایک ہے۔ فقط اس کو پڑھنے اور بولنے میں اختلاف ہے۔ اصل میں چینی حروف تصویروں کا شارٹ ہینڈ روپ ہیں۔ سمجھنے والا ان کا مفہوم سمجھتا ہے۔ لہذا اپیکنگ والے کی لکھی ہوئی کتاب کو کنٹین والا سمجھ لیتا ہے۔ لیکن اگر بولنے کا اتفاق ہو تو زبان یا رمن ترکی بن جاتی ہے۔ اس کی مثال یوں لیجئے کہ ایک چینی حرف ہے □# اس کو کہوں گا ”یہ گھوڑا ہے“ آپ پڑھیں گے۔ اس اسپ است۔ تیسرا آدمی اس کا تلفظ یوں کرے گا۔ (ترجمہ نہیں) THIS IS A HORSE □ ہندی اردو کا معاملہ بالکل اس کے بالعکس ہے۔ کہ آپ بولے تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں دقت نہیں۔ ہاں لکھا ہوا ہے تو اردو رسم الخط کو پاؤں سے جی نہ پڑھ سکیں گے اور ہندی رسم الخط کا منہ حافظ صاحب دیکھتے رہ جائیں گے۔

سوچو کا سوزن کاری کا اسکول دیکھنے کی چیز ہے، یہاں باریک ریشمی دھاگے سے کڑھائی کی تربیت دی جاتی ہے لیکن کڑھائی ایسی کہ برش سے بنی ہوئی تصویر معلوم ہو اور پھر دونوں طرف سیدھا الٹا کچھ نہیں اگر ادھر سے مور ہے تو ادھر سے بھی جیتا جاگتا مور ہے۔ بہت دیدہ ریزی کا کام ہے۔ اگر کپڑے پر بلی بنانی ہے تو پہلے ریشمی دھاگے کی بارہ باریک تاریں بنائی جائیں گی۔ پھر ویسی ہی ریشمی تار کشی کی چوبیس تاروں سے بلی کی آنکھ کی سفیدی اور پتلی وغیرہ بنائیں گے۔ سینکڑوں شیڈ ہیں۔ ایک کا دوسرے بہت معمولی سہی لیکن فرق ہے۔ یہاں ہم نے دھاگے سے بنی ہوئی بڑی بڑی تصویریں دیکھیں۔ بعض کے بنانے میں دو دو تین تین سال صرف ہوئے۔ ٹانگوں کی نئی قسمیں ایجاد ہوئی ہیں کہ ایسی کہنگی آنکھوں سے کہیں جو نظر نہ آئے۔



## حال سرنگوں کی لڑائی کا

چینیوں کی خاص اختراعوں میں ایک چیز ”انڈر گراؤنڈ“ یا زیر زمین لڑائی ہے۔ وہی حربہ جسے اب جنوبی ویت نام میں گوریلے استعمال کر رہے ہیں۔ شمالی ویت نام میں بھی کرتے ہوں گے یا کریں گے۔

انڈر گراؤنڈ کا لفظ اصطلاحاً کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سب جانتے ہیں جو لوگ کھلے عام کوئی سیاسی کام نہ کر سکیں لیکن وہ چوری چھپے کرتے ہیں۔ یہ چوری چھپے کام خواہ وہ کسی مینار کی چوٹی پر ہی چڑھ کر کیوں نہ کریں۔ انڈر گراؤنڈ ہی کہلائے گا۔ قیام پاکستان کے کوئی دو سال بعد کی بات ہے کہ روس سے ایک وفد لاہور آیا جس میں تاجکستانی ادیب ترسون زادہ بھی تھے۔ ان دنوں سجاد ظہیر پاکستان میں ہو ا کرتے تھے لیکن کہیں چھپے ہوئے تھے۔ ترسون زادہ نے جو ان کے نام سے واقف رتھے ایک محفل میں پوچھا کہ ”سید سجاد ظہیر کجاست؟“

فارسی اور تاجکی اپنی اصل سے ایک ہی زبان ہیں۔ لہذا ایک فارسی دان پاکستانی نے کہا۔ ”اوزیر زمین است“ ترسون زادہ اور ان کے ساتھیوں نے تھوٹھا سا منہ بنالیا اور کہا ”اچھا ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی، کیا بیماری ہوئی تھی انہیں؟“۔

اب یہ پاکستانی صاحب گھبرائے کہ ترسون زادہ کو کیسے سمجھائیں کہ یہ زیر زمین ہونے اور مدفون ہونے میں فرق ہے یہ تو ابھی فارسی الفاظ ڈھونڈ ہی رہے تھے لیکن ترسون زادہ ان کے اضطراب سے بات کو پا گئے اور بولے:

فہمیدم، فہمیدم اور روپوش است۔ یعنی میں سمجھ گیا۔ روپوش ہیں وہ۔

لیکن یہ لڑائی جس کا ذکر ہے۔ واقعی زمین کے نیچے سے لڑی جاتی ہے اسے سرنگوں کی لڑائی بھی کہتے ہیں آغاز اس لڑائی کا جاپانیوں کے خلاف جنگ کے دنوں میں ہوا تھا۔ جاپانی کسی گاؤں میں آتے تو گھر والے نیچے تہہ خانے میں چلے جاتے۔ قریب قریب ہر گھر والے نے ایک زیر زمین سرنگ کھود رکھی تھی۔ جس کا منہ

ڈھانپ دیا جاتا اور ساری رسد لے کر افراد خاندان اس میں سمٹ بیٹھتے۔ جاپانیوں کو پتہ چلا تو وہ آ کر ان کو کھدیڑ نکالتے۔ اس سے بچنے کے لیے ہر گھر کے تہہ خانے یا سرنگ کو پڑوس کی سرنگ سے ملا دیا گیا اور یوں سرنگوں ہی سرنگوں میں ایک گاؤں کے اس سے سرے سے دوسرے حصے کو چلے جائے۔ کچھ دن یہ ہوا کہ اب جاپانی آ کر پورے گاؤں کا محاصرہ کر لیتے۔ اس کا علاج اب باہمت لوگوں نے یہ نکالا کہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک سرنگ لے گئے اور یوں پورے علاقے یا ضلع میں سرنگوں کا جال پھیل گیا۔

جہاں میں اہل ایماں صورت خورشید جیتے ہیں  
ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے

لڑائی میں دونوں طرف سے یہی ہوتا ہے۔ یہ ڈال ڈال وہ پات پات۔ وہ ڈال ڈال یہ پات پات۔ اب جاپانی یہ کرنے لگے کہ دو گاؤں کے درمیان میں ایک آڑی سرنگ کھودتے جو چینوں کی سرنگ کو کاٹ دیتی۔ پیکنگ اور ہانگو کے درمیان بتیان میں ایک بار جاپانیوں نے ایک سرنگ کو دو جگہ سے کاٹ دیا۔ دنوں جگہوں کے درمیان آدھ میل اکا ٹکڑا بالکل محصور ہو گیا۔ اس میں انہوں نے زہریلی گیس چھوڑ دی اور آٹھ سو دیہاتی مارے گئے۔ اب گاؤں والوں نے مسکوٹ کی کہ اس کا کیا پائے کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ سرنگیں سیدھی نکالنا چھوڑ دیں۔ ٹیڑھی میڑھی گھما پھرا کر لاتے تھے۔ پھر ایک سرنگ کے ساتھ ساتھ تھوڑے فاصلے پر دوسری سرنگ جاتی تھی۔ ایک میں گیس آئی یا کوئی اور خطرہ پیدا ہوا تو دوسری میں چلے گئے اور درمیانی راستہ بند کر دیا۔ ایک سرنگ زمین سے دس فٹ نیچے تو دوسری بیس یا تیس فٹ نیچے بنالی۔۔۔ ہوتے ہوتے گیس کے دفعیے کے لیے دوسری تدبیریں بھی نکال لی گئیں۔ معلوم ہوا اہسن اور ٹھنڈے پانی کے محلول اس کے اثرات کو زائل کر دیتا ہے زیادہ شدت ہوتی تو زیر زمین ہسپتال بھی موجود تھے۔

جاپانی گاؤں میں جاتے تو آدم نہ آدم زاد۔ غلہ نہ مویشی ہاں پاؤں ادھر سے  
 ادھر پڑ گیا یا کسی طاقے میں ہاتھ ڈالا تو فوراً بم پھٹا اور پر نچے اڑ گئے۔ ان سرنگوں  
 میں جا بجا ایسے روشن دان اور سوراخ رہتے تھے جو باہر سے نظر نہ آتے تھے۔ ہاں  
 اندر والے خالی آنکھ سے یا دور بین سے دور دور کی خبر رکھتے باہر بارودی سرنگیں بچھی  
 رہتی تھیں جو اندر سے ایک سی کھینچنے سے پھٹ جاتیں۔ جو نہی کوئی جاپانی دستہ ان  
 سرنگوں کے پھندے میں آیا بس سی کو ایک جھٹکا دیا اور سب کا جھٹکا کر ڈالا۔ ان  
 بارودی سرنگوں کا سننے۔ یہ لوگ خس خانہ و برفاب کہاں سے لاتے، بس دیسی ہوتی  
 تھیں۔ کوئی کیتلی کوئی بدھنا، کوئی بوتل ہاتھ آ گئی۔ اس میں بارود اور کرچیاں بھر دیں  
 اور ٹھیک ہے۔ کوئی کنسٹرل گیا تو واہ وا۔ بڑی سرنگ بن گئی۔ جہاں ان کی بھی قلت  
 ہوئی وہاں پتھروں کو کھوکھلا کر کے بم بنالیا گیا۔ پتھر کو کھوکھلا کرنا آسان کام نہیں۔  
 کر کے تو دیکھئے لیکن بس یہ کرتے تھے اور منہ میں لکڑی کا ڈاٹ لگا کر سڑک کے  
 کنارے ڈال دیا۔ اب سڑک پر پتھروں پتھر پڑے ہیں۔ کس کس سے بچیں۔  
 جاپانی فوجی خربوزوں اور تربوزوں کے کھیتوں میں بھی بہت لوٹ مچایا کرتے تھے۔  
 اب اس سے بھی ہاتھ کھینچا۔ کیونکہ ایک دو بار ایسا ہوا کہ کسی تربوز پر ہاتھ ڈالا اور اس  
 کے اندر چھپی ہوئی سرنگ بھک سے پھٹی اب وہ کھیتوں میں سے بھوکے گزر جاتے  
 تھے۔ بھوک کا خیال کریں یا جان کا۔ طرح طرح کی سرنگیں تھیں اور قسم قسم کے بم  
 اور لطف یہ ہے کہ کسی کارخانے کے بنے ہوئے نہیں۔ دیہات میں پٹاخے بنانے  
 والے آتش باز انھیں بناتے تھے بلکہ پھر تو سب بنانے لگے۔ پتھر کی سرنگوں میں ایک  
 بڑا کمال یہ تھا کہ جاپانیوں کے سرنگیں دریافت کرنے والے بہترین آلات بھی بے  
 کار ہو جاتے تھے۔

جاپانی خود ان سرنگوں میں قدم دھرتے ڈرتے تھے۔ جا بجا بم چھپے ہوئے ہیں  
 اور پھر جا بجا سرنگ کے فرش میں گڑھا کھود کر اسے گھاس پھوس سے پاٹ رکھا ہے۔

اندر بانس کی ٹیلی کچھیاں گڑی ہیں جو گراو ہیں چھد کر رہ گیا۔ یا پھر کسی موڑ پر کوئی کوئی سی بنی ہے جو کسی طور نظر نہیں آتی اس میں ایک دیہاتی گند اسے لیے کھڑا ہے۔ ایک وار کیا اور بھٹا سا سر اڑا دیا۔ سرنگوں کی بغل میں حجرے بھی بنے تھے۔ اگر کوئی جمعیت کسی حجرے میں چلی گئی تو یک لخت کھٹکا گرتا تھا اور سب اندر بند۔ اس حصار میں یا تو کسی نے باہر سے کوئی بم اچھال دیا یا کسی بارودی سرنگ کی سی کھینچ دی القصہ زندہ کوئی نہ نکلتا تھا۔

جاپانی بہت زچ ہو گئے تو یوں کرنے لگے کہ کسی چینی دیہاتی کو جوان کی قید میں ہوتا آگے آگے رکھتے۔ لیکن سی ہمیشہ ایسے موقع پر کھینچی جاتی جب وہ گزر چکتا۔ چھپے ہوئے لوگوں کو قدموں کی چاپ ہی سے اندازہ جاتا۔ کہ کون ہے۔ اگر ننگے پاؤں ہے یا بان کی سینڈل پہنے ہے تو کوئی چینی ہے۔ چڑے کے بوٹ کے بھاری دھمک موت کا پروانہ تھی۔

ایک بار کی سنئے۔ جاپانی ایک گاؤں میں گئے۔ کھیت کھلیاں سب چھان مارے نہ کوئی آدمی نہ کوئی دانا نالج کا ہاتھ آیا۔ لیکن سرنگ کا راستہ دریافت ہو گیا۔ ایک سوڑ شامت کا مارا مل گیا۔ اس کی دم سے انہوں نے زہریلی گیس کا کنسٹر باندھا اور پیٹھ پر مٹی کا تیل ڈال کر آگ لگا دی۔ وہ چٹکھاڑتا ہوا سرنگ میں گھس گیا۔ اب ترکیب نمبر ۱۱۴ استعمال کرنے کا وقت تھا۔ فرش میں ایک بڑا سا گڑھا پانی سے بھرا تھا اس کا تختہ اٹھا دیا گیا۔ حضرت سو رقعہ فنا میں غرق ہوئے اور گیس بے کار ہو گئی۔ لیکن یہ ساری ترکیبیں تب ایجاد ہوئیں جب بے اماں دشمن کے ہاتھوں کتنی ہی جانوں کا نقصان ہو چکتا۔

جاپانی دیہاتیوں کو ہراساں کرنے کے لیے اور یہ جتانے کے لیے کہ ان کی بھاری قوت موجود ہے طرح طرح کے ہتھکنڈے استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے جابجا دم دے بنا رکھے تھے۔ سپاہیوں سے (بظاہر) بھرا ہوا ٹرک آتا اور دم دے میں




خالی ہو کر چلا جاتا۔ اصل میں آدمی چار چھ ہی ہوتے تھے۔ باقی سب ریڑ کے ڈمی سپاہی ہوتے۔ دمدے میں ان کی ہوائ کال لی جاتی اور وہ پچک جاتے۔ یہ بھید بھی جلد ہی کھل گیا۔ ایک گاؤں میں جب کہ سبھی لوگ زیر زمین جا چکے تھے۔ انہوں نے گراموفون پر ایک ریکارڈ لگا دیا۔ جس میں ٹوکوں کی گھر گھر رہند ہوتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ دس ٹرک آرہے ہیں، دس جا رہے ہیں۔ گاؤں والے دو دن تو دیکے بیٹھے رہے۔ کہ باہر نکلنے میں جاں کا زیاں ہے۔ اس کے بعد کسی سیانے نے غور کیا اور کہا کہ آواز تو آتی ہے لیکن دھمک نہیں آتی باہر نکل کے دیکھا کہ دو تین جاپانی ہیں یا گراموفون ہے۔ جاپانیوں کو تو انہوں نے قابو کیا اور گراموفون پر نور جہاں کے نغموں کے ریکارڈ لگا کر جشن منایا۔

چینیوں کے لڑنے کے طریقے اب تو ممکن ہے کسی کتاب میں ہوں لیکن بس دہقانیوں کی ایجاد تھی۔ ہوتا یہ کہ کچھ چینیوں نے جاپانیوں کے بمپ پر چھاپہ مارا اور انہوں نے جھلا کر ان تعاقب شروع کر دیا۔ جہاں راستے میں کوئی بستی آتی دو چار سٹک کے رہ گئے۔ پانچ چھ نے اگلے گاؤں میں کنارہ کیا ل دیہاتی برابر طرح دیئے جاتے کہ ادھر کو گئے ہیں۔ جانے نہ پائیں۔ تیسرے گاؤں کے باہر نکل کر جاپانی آنکھیں مل مل کر دیکھتے کہ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ اٹے پاؤں لوٹتے تو یہ مارنے کو چوکس، کوئی درخت پر ٹنگا ہے کوئی چھت کی منڈیر سے نشا نہ لیے ہے، بس کوئی قسمت والا ہی جان سلامت لے کر جاتا تھا۔

ہماری یہ بڑی خواہش تھی کہ سرنگوں کا یہ جال اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ لیکن پیکنگ یا شنکھائی کے نواح میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی اور پھر یہ جاپانیوں سے لڑائی کے زمانے کی بات ہے۔ بیس برس سے اوپر ہو گئے۔ سنا ہے شمالی چین کے صوبہ ہو پی میں جو اس قسم کی جنگ کا گڑھ تھا۔ کچھ آثار اب بھی باقی ہیں۔ ایک فلم البتہ سرنگوں کی لڑائی کے متعلق ہم نے دیکھی۔ اور واقعی دیکھنے کی چیز ہے، پھر چینی

انقلاب کے میوزیم میں انہوں نے ماڈل بنا رکھے ہیں۔ یہیں وہ پتھر کی سرنگلیں نظر آئیں اور لکڑی کی توپیں بھی۔ اتنا اسلحہ یا اسلحہ کے لی دھاتیں کہاں سے لاتے۔ چینی تو بس کسی مضبوط سی لکڑی کا لٹھا لیتے اور اس میں آر پار سوراخ کر لیتے۔ یہ توپ کی نال بن گئی۔ زیادہ مضبوطی کے لیے کہ پھٹ نہ جائے اوپر سے لوہے یا تانبے کے تاروں سے جکڑ دیا۔ بات یہ ہے کہ اصلی چیز اسلحہ نہیں ہوتا۔ اسلحہ کے پیچھے والا آدمی ہوتا ہے۔



## لانگ مارچ کی کہانی (۱)

جانے کے صدیاں پہلے ہنی بال بادشاہ نے ہاتھیوں کے ساتھ کوہ الپس عبور کیا تھا۔ وہ واقعہ دنیا کی مہمات کی تاریخ میں اب تک سنگ میل کہا جاتا ہے۔ لیکن ۳۵۔ ۱۹۳۴ء میں چینوں کے لانگ مارچ کے سامنے وہ بچوں کا کھیل تھا۔ دوسری ہجرتوں میں سے بھی تعداد اور فاصلے کے لحاظ سے کوئی اس کا لگانہ کھا سکے گی۔ ہاں منگولوں کے خروج کو آپ نظیر میں پیش کر سکتے ہیں لیکن وہ ایک فائنڈ خراج تھا اور جہاں رکاوٹ دیکھتا تھا، یہ سیلاب اپنی مرضی سے اپنا رخ بدل لیتا تھا۔ ۱۹۴۷ء میں جو قافلے آگ اور خون کے دریا عبور کر کے سر زمین پاک کی اماں میں آئے۔ ان کو اس واقعے سے ایک گونہ نسبت دی جاسکتی ہے۔ لیکن خیر آپ یہ داستان سن کر خود فیصلہ کیجئے گا۔

اس قافلے نے ۱۶ اکتوبر ۱۹۳۴ء کو دیباغے یا گسی کے جنوب میں کیا گسی کے صوبے سے کوچ کیا اور ۲۰ اکتوبر ۱۹۳۵ء کو تھائے شمال مغرب میں نیان میں پہنچ کر دم لیا۔ کسی کے حصے میں چھ ہزار میل کی مسافت پڑی۔ کسی کے حصے میں آٹھ ہزار میل بھی آئے۔ چانگام سے پشاور تک کا فاصلہ اندازہ دو ہزار میل ہوگا۔ یہ مسافت اس سے تین چار گنا جانے۔ پھر تمام تر پیدل۔ جتنے لوگ کمر ہمت باندھ کر نکلے تھے ان کا بس ایک حصہ منزل تک پہنچا۔ باقی تاریک راہوں میں مارے گئے۔ چیانگ کائی شیک کی نائنگ حکومت کی افواج قاہرہ کئی گنا جمعیت میں گھیرے ڈالے تھیں۔ راستے میں مورچے بنائے ہوئے تھیں۔ آبادیوں اور کھیتوں کو اجاڑ رہی تھیں۔ دریاؤں کے ناکے روکے ہوئے تھیں اور دجل و تلپیس کے پھندے پھیلانے ہوئے تھیں۔ اس قافلے کو ۳۶۸ دن کے سفر میں دشمن سے روزانہ ایک جھڑپ کا واسطہ پڑا۔

پورے پندرہ دن گھمسان کی خوریز لڑائی میں صرف ہوئے۔ ۲۳۵ دن چلنے

چلنے مدام چلنے میں صرف ہوئے اور ۱۸ راتیں کوچ میں بسر ہوئیں۔ ۱۰۰ دن کے مجموعی پڑاؤ میں جس میں بے شمار جھڑپیں بھی ہوئیں۔ ۵۶ دن اکیلے شمالی زیچوان میں صرف ہوئے اور باقی پانچ ہزار میل کی مسافت ۴۴ دن میں طے کرنی پڑی۔ گویا ۱۱۴ میل چلنے کے بعد ایک پڑاؤ کی اوسط رہی۔ روزانہ کی مسافت کا اوسط ۲۴ میل پڑا۔ اور وہ ایسے کہ یہ سیدھا اور صاف اور میدانی راستہ تھا۔ دشوار گزار پہاڑیاں تھیں۔ خطرناک گھاٹیاں تھیں، وحشی جنگل تھے اور غدار و لدلیں تھیں اور دشمن کی بے محابا فوجیں تھیں۔ تمام جدید سامان حرب سے آراستہ۔

یہ قافلہ ۱۸ پہاڑی خطوں سے گزرا جن میں سے پانچ ایسے بھی تھے کہ بارہ مہینے برف میں ڈھکے رہتے تھے اور قافلے میں جنوبی چین کے لوگوں کی اکثریت تھی جو ہمیشہ گرم آب و ہوا کے عادی رہے ہیں۔

اس قافلے نے چوبیس دریا پار کئے ۱۲ صوبے اس کے راستے میں آئے۔ اور وہیں جنگجو سرداروں کی فوجوں کا گھیراؤ اس نے توڑا۔ چھ قبائلی علاقے بھی سنگ راہ بنے جن کے باشندے وحشی اور خون خوار تھے۔ اور ان ان علاقوں میں سے اس قافلے کا گزر ہو جہاں کبھی کسی چینی فوج کے قدم نہ پہنچے تھے اور اس پیدل قافلے میں ماؤزے تنگ بھی تھے۔ چو این لائی بھی کمانڈر انچیف چوتہ بھی تھے اور لن پیاؤ بھی۔

ڈاکٹر سن یات..... چین کے جمہوری انقلاب کے قائد کی زندگی میں ماؤزے تنگ اور چو این لائی بھی اس کے تھے اور چیانگ کانگ کائی شیک بھی ۱۹۲۵ء میں سن یات سن کا انتقال ہوا تو دونوں دھڑے الگ ہو گئے۔ ایک وہ جو مزدوروں اور کسانوں کو انقلاب کے ثمرات کا وارث جانتے تھے۔ دوسری طرف وہ جن کے جابدادوں اور صنعتوں کے مفاد تھے۔ چیانگ کانگ کائی شیک نے فوجی طاقت پر قبضہ کر کے سب سے پہلے کنیشن میں ہزاروں انقلابی کارکنوں کو تیغ کے گھاٹ اتارا۔ کنیشن میں ہم نے وہ مقامات دیکھے جہاں یہ خونی ڈراما کھیلا گیا تھا۔ اور شہیدوں کی یادگار پر پھول



چڑھائے۔ اس دن ۴ مئی یعنی چین کے یوم بیداری کی سالگرہ بھی تھی۔ ۱۹۲۷ء اور ۱۹۲۹ء میں شنگھائی میں مزدوروں کے خون کی ندیاں بہائی گئیں۔ فرانس کے دانشور آندرے ماروکا ناول انسان کی قسمت، شنگھائی کی انہی خونریزیوں کے پس منظر میں ہے۔

انقلابیوں نے خود کو گنے چنے علاقوں میں مرکوز کر لیا۔ ان میں سے سب سے بڑا گڑھ کیانگسی کا صوبہ تھا۔ جو شنگھائی اور کنٹن کے درمیان پڑتا ہے۔ یہاں چھ سال تک انقلابی حکومت قائم رہی۔ اور چیانگ کانگ کی چھاتی پر مونگ دتی رہی۔ چیانگ نے پے در پے چار مہمیں انقلابیوں کا قلع قمع کرنے کے لیے بھیجیں۔ لیکن یہ جرار لشکر سلامت لوٹ کے نہ آئے۔ انقلابیوں کی جمعیت شروع میں سیکڑوں تک محدود تھی۔ پھر ہزاروں ہوئی۔ پھر لاکھوں، ہتھیار ان کے پاس وہ تھے جو کومنٹانگ کی فوجوں سے چھینے جاتے تھے۔ پہلی چار مہموں میں چیانگ کے پورے پورے بریگیڈ اور ڈویژن خاک میں ملا دیے گئے۔ لیکن پانچویں مہم کہ سب سے بڑی مہم تھی۔ انقلابیوں کے لیے قیامت ثابت ہوئی۔

۱۹۳۳ء کا اواخر تھا کہ چانگ کانگ کی شیک نے اس پانچویں مہم کا طبل جنگ بجایا اور انقلابیوں کو جڑ بنیاد سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے نولاکھ کی فوج لے کر چڑھ آیا۔ انقلابی علاقے اور صوبوں میں بھی تھے، تنہا کیانگسی پر اس کی چار لاکھ فوج حملہ آور ہوئی۔ جو ۳۶۰ رجمنٹوں پر مشتمل تھی۔ ادھر انقلابیوں کے پاس ریزرو دستے شامل کر کے بھی ایک لاکھ اسی ہزار کی نفری بنی۔ بے قاعدہ رضا کار، دو لاکھ کے قریب ان کے علاوہ تھے جن کو اس زمانے میں بھی سرخ محافظ کہتے تھے بلکہ آج کے سرخ محافظوں نے یہ نام وہیں سے مستعار لیا ہے۔ ہتھیاروں کے نام ان کے پاس ایک لاکھ سے کم ہی رائفلیں تھیں۔ بھاری توپ خانہ نام کونہ تھا۔ بم گولے اور بارود بھی کم ہی تھا۔ ایک ہی تو اسلحہ خانہ تھا وہ بھی چھوٹا سا۔ چوکی جن کے مقام پر اس کی پیداوار اونٹ کے منہ

میں زیرہ سمجھنی چاہیے۔ اس کے مقابلے میں چانگ کانٹ شیک کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہ تھی۔ نئے سے نئے اور بھاری سے بھاری ہتھیار تھے۔ جرمن فوجی مشیر تھے۔ باہر کے ملکوں سے بے پناہ رسد مل رہی تھی۔ لوٹ کھسوٹ سے خزانہ بھر پور تھا۔ مشینی اور بکتر بند دستے تھے۔ طاقت ور ہوائی بیڑہ تھا۔ جس میں کوئی چار سو جنگی جہاز تھے۔ اس کے مقابلے میں انقلابیوں کے پاس فقط چند جہاز تھے۔ جو انہوں نے چیانگ کی سپاہ سے چھینے تھے۔ اور تین یا چار پائلس..... لیکن پٹرول نہ تھا۔ بم نہ تھے۔ مکینک نہ تھے۔ پانچویں مہم میں چیانگ کانٹ شیک نے اپنا لڑائی کا نقشہ بھی بدل دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ نقشہ جرمن جرنیل فاکن ہازن کا تیار کردہ تھا۔ اور مقصود یہ تھا کہ انقلابیوں کو گھیرے میں لیا جائے۔ ان کی رسد کے راستے بند کئے جائیں اور محاصرہ تن کرتے کرتے ان کا گلا گھونٹ دیا جائے۔

یہ تدبیر کاری ثابت ہوئی۔ رسد کی قلت پڑنے لگی۔ نمک تو بالکل نایاب ہو گیا۔ روزمرہ کی بمباری سے ہزاروں کسان مارے گئے۔ سرخ فوج کے کوئی ساٹھ ہزار آدمی اس مہم میں مقتول و مجروح ہوئے۔ شہری آبادی کا اور زیادہ نقصان ہوا۔ پورے پورے علاقے آبادیوں سے خالی اور ویران ہو گئے۔ کومن تانگ کے اپنے دعوے کے مطابق اس مہم میں تہ تیغ ہونے اور فاقے سے مرنے والوں کی تعداد کوئی دس لاکھ ہوگی۔

اس وقت انقلابیوں میں بھی دو دھڑے تھے۔ ایک جو برسرِ اقتدار تھا۔ اس سے کئی غلطیاں بھی سرزد ہوئیں۔ لیکن بہت کچھ نقصان اٹھانے کے بعد ماؤزے تنگ کے ہم خیالوں کی یہ بات مان لی گئی کہ اس وقت ہجرت ہی مناسب ہے۔ اس وقت شمال مغرب کے انقلابی علاقوں کو اپنا ٹھکانہ بنا کر اپنی طاقت مستحکم کرنی چاہیے۔ پھر کومن تانگ سے نپٹا جائے گا۔

منصوبہ بنایا گیا۔ اور ایسے چپ چاپ اس پر عمل شروع ہوا کہ کومن تانگ فوجوں

کو اس وقت سن گن ملی جب کہ نوے ہزار انقلابی فوج راتوں کے پردے میں مارا مار  
کوچ کرتی ہوئی کئی روز کی راہ نکل گئی تھی۔ پہلی تین راتوں میں تو انقلابیوں نے  
مغرب اور جنوب کی طرف تھوڑے تھوڑے پاؤں پھیلائے لیکن چوتھی رات غیر  
متوقع طور پر یکبارگی انہوں نے ہنہان اور کوانگ تونگ کے صوبوں میں کومن  
ٹانگ کی قلعہ بندیوں پر حملہ کیا۔ سرکاری فوجیں بھاگ کھڑی ہوئیں اور جنوب کی  
تمام قلعہ بندیوں پر انقلابیوں کا قبضہ ہو گیا۔ یوں جنوب اور مغرب کے راستے ان  
کے لیے کھل گئے۔

اس منزل تک پہنچنے کے لیے انقلابیوں کو محاصرے کے چار حلقے توڑنے  
پڑے۔ ایک کے بعد ایک ۱۱۶ کتوبر کو کوچ شروع ہوا۔ ۲۱ کو پہلا حلقہ ٹوٹا۔ ۳ نومبر کو  
دوسرے حلقے کی زنجیریں شکست ہوئیں اور ہفتہ بھر بعد تیسرا بھی پامال ہوا۔ چوتھی  
مورچوں کی لائن ۲۹ نومبر کو سرخ فوج کے دباؤ کی تاب نہ لا کر جواب دے گئی۔ اس  
تاریخ کے بعد انقلابی فوج ظفر مونیج ایلا ب کی صورت سارے ہنہان میں پھیل گئی  
تھی۔ جہاں سے انہیں سیدھے زیچوان جانا تھا۔ جس کی سرحد مغرب میں تبت سے  
ملی ہوئی ہے۔ زیچوان سے آگے پھر انقلابی علاقہ شروع ہوتا ہے اور یہی اس قافلے  
کی منزل مقصود تھی۔ کوچ کرنے والی جمعیت میں فقط فوج نہ تھی۔ ہزاروں کسان  
بھی تھے۔ بچے بھی بوڑھے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، کمیونسٹ بھی، غیر کمیونسٹ بھی۔  
کیونکہ انقلابیوں نے اپنی چھ سال کی عمل داری میں سارے کیانگسی میں زمینوں کو  
زمینداروں سے لے کر کسانوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ٹیکس گھٹا دیئے تھے۔ امداد باہمی  
کے ادارے بنادیئے تھے۔ بیروزگاری افیم چکلے بازی، بچوں کی غلامی اور زبردستی کی  
شادی کا یکسر قلع قمع کر دیا تھا۔ تعلیم عام ہو چکی تھی۔ بعض علاقوں میں تو خواندگی کا  
تناسب ۸۰ فی صد ہو گیا تھا۔ کومن ٹانگ کے دوبارہ قبضے کا مطلب ان اصلاحات کا  
صفایا تھا اور ان تمام بلاؤں کی واپسی۔

سو نقشہ ان کوچ کرنے والوں کا یہ تھا کہ کسی نے کسی مشین کا پیہہ کاندھے پر رکھ چھوڑا تھا۔ کوئی ہینگلی میں خراد کے پرزے اٹھائے تھا۔ کیونکہ کوچ سے پہلے اسلحہ خانہ اکھاڑ لیا گیا تھا۔ فیکٹریاں ادھیڑ لی گئی تھیں۔ بھاری مشینیں خچروں اور گدھوں پر بار کی گئیں لیکن زیادہ تر بوجھ لوگوں نے خود اٹھایا۔ راستے دشوار گزار تھے لہذا بہت سامان سر راہ پھینکنا بھی پڑا۔ بلکہ ہزاروں رائفلیں اور مشین گنیں۔ بارود حتی کہ چاندی کے ذخیرے بھی سر راہ دفن کرنے پڑے۔ اب آ کر شاید وہ نکالے گئے ہوں۔ ادھر پیچھے، اس کوچ کے باوجود کومن ٹانگ کو شہروں پر قبضہ کرنے میں ہفتوں لگے۔ کیونکہ ہزاروں شہریوں اور باقی ماندہ سرخ فوجیوں نے ڈٹ کر مقابلے کیے۔ یہ لوگ جن کی تباہی اور موت یقینی تھی۔ رضا کارانہ طور پر پیچھے رہ گئے تاکہ ان کی قربانی کی بدولت باقیوں کی سلامتی کا راستہ کھلا رہے۔ ان کو بجا طور پر مجاہدوں اور شہیدوں میں گنا جاتا ہے۔ یہ لوگ مقابلے پر نہ ہوتے تو کومن ٹانگ کی ساری فوجیں کوچ کرنے والے قافلے پر جا گرتیں اور پھر نہ جانے کیا ہوتا؟

کوی چو کی سرحد تک کی مسافت ان بے سرو سامان مسافروں کے لیے موت کی وادی کے سماں تھی۔ یہ پیدل، دشمن سوار۔ یہ خستہ و خراب، دشمن تازہ دم اور کیل کانٹے سے لیس یہ کم دشمن لاتعداد۔ دشمن کو ان کا راستہ معلوم تھا۔ وہ پہلے سے پھندے بچھا مورچے جما ان کی تاک میں بیٹھ جاتا تھا۔ کوی چو تک پہنچتے پہنچتے کوچ کرنے والوں میں ایک تہائی ختم ہو چکے تھے۔

اب طے ہوا کہ یہ تو تباہی کا راستہ ہے۔ تیر کی طرح سیدھے جانے کی بجائے راہوں کو الجھاتے ہوئے چلو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مرکزی قافلے کو بیچ میں رکھ کر چار دستے یکمین دیسار جھڑپوں میں مشغول ہو جاتے اور مرکزی قافلہ آگے بڑھتا رہتا۔ کومن ٹانگ کے ہوائی جہاز بھی اس لہریا دار خروج کے آگے رچ ہو جاتے۔ اب چیا نگ کاٹی شیک نے یہ تاڑ لیا کہ یہ لوگ دریائے نیگیسی کو پار کر کے زپچوان میں داخل ہوں



گے۔ ہزاروں سپاہ بھیج کر دریا کے ناکے اور پہاڑ کے درمسدود کر دیئے۔ تمام کشتیاں جنوبی کنارے سے شمالی کنارے پر منتقل کر دی گئیں۔ فصلیں اجاڑ دی گئیں۔ کوی چو میں ایک لاکھ کومن تا نگ سپاہ انقلابیوں کے خیر مقدم کو کھڑی تھی۔

چیانگ چاہتا تھا کہ انقلابیوں پر نیگیسی کی راہ بند کر کے ان کو جنوب مغرب میں تبت کے ویرانوں میں دھکیل دے اور وہاں ان کو ختم کر دے۔ لیکن اپریل ۱۹۳۵ء میں اس کی توقع کے برعکس سرخ فوجوں نے یک لخت رخ بدلا اور جنوب میں نیان کے صوبے میں ہو کر برما اور ویت نام کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ چار دن میں یہ فوجیں نیان کے دارالحکومت نیا نفو کے دس میل کے اندر پہنچ گئیں۔ مادام چیانگ کائی شیک جو ان دنوں وہاں تھیں ریل سے فرانسیسی ہندو چینی کی طرف بھاگیں۔ چیانگ نے انقلابیوں کے پیچھے اپنی فوج جبراً ڈال دی۔ لیکن یہ تو محض ایک چال تھی۔ نیا نفو کی طرف تو فقط تھوڑی سی فوج گئی تھی بڑا حصہ تو مغرب کو مڑ گیا تھا تا کہ لینگ کائی کے مقام پر دریا عبور کرے۔

یہ لینگ کائی ہے..... یا نکسی کے دونوں طرف فلک بوس پہاڑ عموداً کھڑے ہیں۔ دروں میں کومن تا نگ کے مورچے ہیں۔ دریا کی کشتیاں شمالی کنارے لے جا کر جلا دی گئی ہیں۔ سرخ فوج کے تین دستے وہاں پہنچتے ہیں۔ کشتیاں جلی دیکھ کر بانس کا پل بنانا شروع کر دیا ہے لیکن پل تو کئی ہفتے میں بنتا ہے۔ چیانگ نے نعرہ لگایا۔ وہ مارا۔ اب یہ لوگ زندہ بچ کر نہیں جاسکتے۔

لیکن یہ دوسری چال تھی۔ سرخ فوج کی ایک بٹالین نے یک لخت رخ موڑ کر چو پنگ کے قلعے کی راہ پکڑی۔ کشتیوں سے دریا پار کرنے کا یہی ایک ناکہ رہ گیا تھا۔ اس بٹالین نے ۸۵ میل کی راہ ایک دن رات میں طے کی اور سرکاری فوجوں سے چھینی ہوئی وردیوں میں ملبوس سرشام چو پنگ کے قصبے میں جا اترے اور غنیم کے ہتھیار رکھوا لیے۔

کون گمان کر سکتا تھا کہ انقلابی جو تین دن کی راہ پر تھے۔ راتوں رات آمو جو  
ہوں گے۔ لہذا کشتیاں شمالی کنارے پر پہنچا تو دی گئی تھیں لیکن جلائی نہ گئی تھیں۔  
اندھیرے میں یہ سرخ فوج بستی کے کچھ افسروں کو دریا کے کنارے لے گئے اور دریا  
پار کے محافظوں کو پیغام بھجوایا کہ ایک کشتی ادھر بھیجو۔ سرکاری فوج کے کچھ لوگ ادھر  
آنا چاہتے ہیں۔ ایک دستہ ان میں سوار ہو کر دریا پار پہنچا۔ اس وقت کو من تا نگ فوجی  
رائفلیں ایک طرف لکائے تاش کھیل رہے تھے۔ وہ ہکا بکارہ گئے۔ اب باقی ماندہ  
انقلابی سپاہ بھی پہنچ گئی۔ چھ کشتیاں نو دن متواتر پھیرے کرتی رہیں اور پھر کشتیاں جلا  
کر مزے سے اس پر پڑاؤ ڈالا۔ چیا نگ کوئی شیک و انتہا نہیں کر رہ گیا۔ ہوائی جہاز  
میں زچوان پہنچا تو بولا یا نگسی کی خیر ہے اب دیکھوں یہ لوگ دریائے تا تو کیسے پار  
کرتے ہیں ان کی قبریں اس پار نہ بنیں تو چیا نگ نام نہیں۔

©2002-2006

## لائگ مارچ کی کہانی (۲)

دریائے تاتو کا پار کرنا لائگ مارچ کی سب سے خطرناک اور سب سے حیرت ناک مہم گنی جاتی ہے۔ دریائے یانگسی کے عبور سے کہیں زیادہ۔ یہاں سرخ فوج کے قدم رک جاتے تو وہ نیست و نابود ہو جاتی۔ تاریخ میں..... اس سے پہلے کتنی ہی فوجیں دریائے تاتو کے کنارے پر تباہ ہو چکی تھیں۔ انیسویں صدی میں تائے پنگ کی بغاوت مشہور ہے۔ مانچوؤں کی شاہی فوجوں نے ایک لاکھ تائے پنگ فوج کو یہیں روکا اور ختم کر دیا اور اب چیانگ کانگ شیک نے سوچا کہ انقلابیوں کا حشر یہی ہونا ہے۔ یہ دریا ان کے خون سے رنگین ہو گا لیکن تائے پنگ کی فوج کی کمان کرنے والے شہزادہ شہ نے یہ غلطی کی تھی کہ تین دن کو وہاں رک گیا تھا۔ اپنے بیٹے کی سالگرہ منانے کے لیے۔ ان تین میں شاہی فوج نے اسے کھیر کر راہ فرار مسدود کر دی۔ انقلابیوں کو یہ غلطی دہرانا منظور نہ تھا۔

لہذا..... یانگسی سے شمال رو یہ زیچوان میں داخل ہو کر جلد ہی وہ آزاد لولولینڈ کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ جہاں سفید اور سیاہ جنگجو لولو قبائل آباد ہیں یہ قبیلے کبھی چین کے مطیع نہیں رہے اور چینیوں سے ان کو ازلی دشمنی ہے۔

سرخ فوجی اس سے پہلے صوبوں کے قبائل کے درمیان سے بنجر و خوبی گزر چکے تھے۔ اور ان قبائل کے کچھ آدمی ان کی فوجوں میں شامل ہو چکے تھے۔ اب ان کو اپنی بنا کر لولو سرداروں کے پاس بھیجا گیا۔ رستے میں سرخ فوجوں نے بہت سے قبائلی سرداروں کو کومن تانگ افسروں کی قید سے چھڑایا۔ اتفاق سے سرخ فوج کے ہروال دستے کا کمانڈران نواح میں رہ چکا تھا اور ان کی زبان بھی کچھ کچھ بول لیتا تھا۔ وہ جا کر لولو سرداروں سے ملا۔ انہیں بتایا کہ وہ چینی جن سے تم نفرت کرتے ہو اور ہیں..... ہم اور ہیں۔ ہمیں تمہاری آزادی کا احترام ہے۔ کومن تانگ کے دشمن تم بھی ہو۔ ہم بھی ہیں۔ ان لولو سرداروں نے آزمانے کے لیے کہا کہ اچھا یہ بات ہے تو

ہمیں اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار دو۔ سرخ فوج نے یہ بات فوراً مان لی۔ اس پر لولو حیران رہ گئے۔ نہ صرف یہ راستہ سلامتی سے طے ہوا بلکہ سینکڑوں لولو بھی سرخ فوج میں شریک ہو گئے۔

لولو لینڈ کے جنگلوں سے نکل کر جہاں درختوں اور سبزے کی وجہ سے کومن ٹانگ کے ہوائی جہاز بھی ان کو نہ دیکھ سکے، یک لخت ان لوگوں نے دریا کی ساحلی چوکی این جن چانگ پر دھاوا بول دیا۔ یہاں پھر قسمت نہ ان کی یاوری کی۔ پہاڑی پر چڑھ کر دریائے تاتو کی پہنائی پر نظر ڈالی تو کیا دیکھتے ہیں کہ تین کشتیاں جنوبی کنارے کے ساتھ لنگر انداز ہیں۔

یہ کیسے ہوا؟ ہوا یہ کہ اس وقت کومن ٹانگ کی صرف ایک رجمنٹ دوسرے کنارے پر تعینات تھی۔ لیکن اس کا کمانڈر اسی علاقے کا رہنے والا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سرخ فوجیں لولو لینڈ کے راستے کبھی اتنی جلدی یہاں نہ پہنچ سکیں گی۔ انہیں کئی دن لگیں گے لہذا اس روز وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے اور دعوت اڑانے شہر آیا ہوا تھا۔ سرخ فوجوں کے کمانڈر کو بھی پکڑا۔ کشتیاں بھی قبضے میں کیں اب بس دریا پار کرنا تھا۔ ہر کمپنی میں سے سولہ سولہ آدمیوں نے پہلی کشتی میں دریا پار کرنے اور دوسری کشتیاں ادھر لانے کی پیش کش کی۔ جنوبی کنارے پر سرخ فوج نے مشین گنیں نصب کیں اور چوکس ہو کر بیٹھ گئے مئی کا مہینہ تھا۔ سیلاب کے پانی نے تاتو کا پاٹ یا نگسی سے بھی بڑھا دیا تھا۔ کشتی کو اس پار پہنچنے میں دو گھنٹے لگے۔ ادھر بستی کے لوگ سانس روکے کھڑے دیکھ رہے تھے کہ اب کیا ہوتا ہے..... اب ان کا صفایا ہوا کہ ہوا..... لیکن جنوبی کنارے سے سرخ فوجوں نے مشین گن کی ایک حفاظتی باڑھ ماری۔ پار اترنے والوں کی چھوٹی سی ٹکڑی پیچ کھا کر دشمن کی فوجوں کے پیچھے ایک پہاڑی پر جاتری اور وہاں ہلکی مشین گنوں سے فائر کیے اور کچھ بم بھی اچھال دیئے۔



دیکھتے دیکھتے کومن ٹانگ فوجی پسپا ہوئے اور پھر پسپا ہوتے چلے گئے۔ ہاؤ کی آوازیں گونجیں۔ کشتیوں کے گھاٹ پر اب سرخ فوجیوں کا قبضہ تھا۔ اب پہلی کشتی واپس آئی اور اپنے ساتھ دو کو اور کھینچ لائی اور دوسرے ہلے میں ہر ایک میں اسی جوان سوار تھے اس دن اس رات اور پھر کئی دنوں تک یہ کشتیاں مصروف رہیں۔ حتیٰ کہ ایک ڈویژن فوج اس پار پہنچ گئی۔

لیکن دریا کا دھارا روز بروز تیز ہو رہا تھا۔ تیسرے روز تو کشتی کو اس پار جانے میں چار گھنٹے لگے۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ تمام فوج اور ساز و سامان اور بار بار دار جانوروں کو ادھر پہنچانے میں ہفتوں لگ جائیں گے اور اتنے میں غنیم گھیرا ڈالنے کو آ موجود ہوگا۔ اب لن پیاؤ کی فوج این جن چانگ میں جمع تھی۔ چیانگ کانگ شیک کے ہوائی جہاز نہ صرف دیکھ چکے تھے۔ بلکہ اس پر بمباری بھی کر چکے تھے۔ دشمن کی فوجیں ہر طرف سے کمک کو بھی آ رہی تھیں۔ لن پیاؤ چوتھے ماؤزے تنگ چو این لائی اور پیگ تہ ہوائی نے فوراً آپس میں مشاورت کی اور ایک فیصلہ کیا اور فی الفور اس پر عمل شروع کر دیا۔

اس جگہ سے کوئی ڈیڑھ سو میل دور مغرب میں جہاں اونچی گھاٹیوں کے درمیان دریا گہرا اور پاٹ میں کم چوڑا ہو جاتا ہے لوہے کی زنجیروں کا ایک مشہور پل ہے۔ جسے لیوکا پل کہتے ہیں۔ تبت کے مشرق میں تا تو دریا پار کرنے کا یہ آخری پل ہے۔ اب یہ فوج پیادہ پا اس طرف روانہ ہوئی۔ کبھی یہ ہزاروں فٹ اونچی چٹانوں پر ہوتے۔ کبھی ان کی پگڈنڈی نیچے ترائی میں سے گزرتی جہاں کم کمر تک کیچڑ اور دلدل تھی۔ اگر وہ اس پل کو پار کر لیتے ہیں تو پوری فوج مرکزی زیچون میں جا اترتی ہے۔ لیکن اگر نہیں کر سکتے تو.....؟ تو انہیں پھر اگلے پاؤں لولولینڈ میں سے گزر کر دوبارہ صوبہ نیان میں داخل ہونا پڑے گا اور پھر لڑتے بھڑتے تبت کی سرحد پر لی کیا تنگ پہنچنا ہوگا۔ یہ کوئی ڈھائی سو میل کی مسافت ہے اور جب تک کتنوں کی جان سلامت

رہے گی؟

اب ادھر سے تاتو کے جنوب کی سرخ فوجوں نے ادھر بڑھنا شروع کیا۔ ادھر شمال کی فوجوں نے، کسی بار پاٹ ٹگ ہو جاتا تو یہ دونوں ایک دوسرے کو آواز دے سکتے تھے۔ دن رات یہ قافلے تیزی سے بڑھتے گئے۔ بس دس منٹ کو آرام یا کھانا کھانے کو رکھتے تھے۔

دوسرے دن دریا کے داہنے ہاتھ والا دستہ پیچھے رہ گیا۔ اس لیے کہ زیچوان کی سرکاری فوجوں سے جھڑپیں ہونے لگیں۔ جنوبی دستہ برابر آگے بڑھتا گیا۔ یکا یک انہوں نے دیکھا کہ دوسری طرف کومن ٹانگ کی فوجیں بھی لیو کے پل کی طرف یلغار کرتی جا رہی ہیں۔ اب دونوں میں دوڑ شروع ہوئی لیکن سرخ فوج کے ہراول دستے اپنے انقلابی عزم کی بدولت بازی لے گئے۔

یہ پل صدیوں پرانا تھا۔ سولہ بھاری آہنی زنجیریں آر پار تنی تھیں۔ یہاں پاٹ کوئی سو گز تھا۔ زنجیروں کے سرے بھاری چٹانوں میں پیوست تھے۔ ان زنجیروں کے درمیان لکڑی کے تختے اور شہتیر سڑک کا کام دیتے تھے۔ لیکن جب سرخ فوج وہاں پہنچی تو دیکھا کہ ان میں سے آدھے تختے ہٹائے جا چکے ہیں۔ صرف زنجیریں باقی ہیں۔ شمالی کنارے دشمن کا ایک دستہ مشین گنیں سنبھالے بیٹھا تھا۔ اور کے پیچھے کومن ٹانگ فوج کی ایک رجمنٹ انتظار کر رہی تھی۔ زیچوان کے لوگوں کو اس پل سے جذباتی وابستگی نہ ہوتی تو اسے بھی تباہ کیا جاسکتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس پل کی تعمیر پر اٹھارہ صوبوں کی دولت صرف ہوئی تھی۔ پھر یہ کون سوچ سکتا تھا کہ سرخ فوج فقط زنجیروں پر چلتے ہوئے دریا عبور کرنے کی کوشش کریں گے لیکن انہوں نے کیا یہی۔ مقصود یہ تھا کہ دشمن کی کمک پہنچنے سے پہلے پل کے ناکے پر قبضہ کیا جائے۔ اس خطرناک آزمائش کے لیے پھر لوگ رضا کارانہ آگے آئے۔ ان میں سے تیس جوان چنے گئے۔ ان کے پاس بم تھے اور انہوں نے زنجیروں کے

حلقوں پر قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کیا۔ سرخ فوجوں کی مشین گنوں نے سہارے کے لیے دشمن کے ناکے پر گولیاں برسانی شروع کیں۔ ادھر سے بھی جواب آیا اور اب گولیاں پل عبور کرنے والے مجاہدوں کا بھی مشانہ لینے لگیں۔ سب سے آگے مجاہد گرا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ لیکن اور آگے بڑھنے پر تختے کی اوٹ انہیں ملی۔ اور وہ گولیوں سے محفوظ ہوئے۔ آخر ایک مجاہد لکڑی کے تختے پر جا کر کھڑا ہوا اور ایک دستی بم مشین کے دستے پر دے مارا، کھلبلی مچ گئی۔ شور ہوا کہ باقی تختے بھی توڑ دو، یا اٹھا دو لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ اب تو ریگتے ریگتے اور لوگ بھی پہنچ گئے تھے۔ تختوں پر پیرافین پھینک کر آگ لگا دی گئی لیکن جب تک بیس سرخ جوان ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل بڑھتے بہت قریب آچکے تھے اور دشمن کے مشین گنوں کے ٹھکانوں پر بم پر بم پھینک رہے تھے۔ یکا یک جنوبی کنارے پر نعرہ گونجا ”سرخ فوج زندہ باد“، ”انقلاب زندہ باد“ تا تو پل کے تین ہیرو زندہ باد، دشمن بھاگ کھڑا تھا۔ شعلوں کے سایوں میں یہ مجاہد دشمن کی چوکی پر قابض ہو چکے تھے۔

اب اور بھی لوگ زنجیروں پر چڑھ کر آگے اور آگ بھانے اور تختے دو باہ جمانے لگے ادھر سے شمالی کنارے کی سرخ فوج کے دستے بھی آپہنچے۔ چیانگ کائی شیک کے طیارے فضا میں گرجتے رہ گئے۔ انہوں نے پل کو بھی بم گرا کر اڑانے کی کوشش کی لیکن وہ سارے بم پانی میں گرے۔

اس روز دریا ئے تا تو کے اس پار جو جشن برپا ہوا اس کا اندازہ خود ہی کر لیجئے۔ لیکن ابھی کڑے کوسوں کی منزلیں باقی تھیں ابھی تو دو ہزار میل کا پیادہ سفر درپیش تھا۔ تا تو دریا کے شمال میں انہیں سولہ ہزار فٹ اونچے پہاڑوں پر چڑھنا پڑا۔ جہاں سے مغرب کی طرف تبت کی دھرتی بس برف کا سمندر نظر آتی تھی۔ یہاں کچھ لوگ پہاڑوں کی سردی کی تاب نہ لا کر مرے، کچھ دلدلوں کی نذر ہوئے ایک آرمی کور کے تو دو تہائی جانور جو بار برداری کا واحد ذریعہ تھے دلدل میں ایسے ڈوبے کہ پھر نہ ابھر

سکے۔

لیکن یہ نقصان بھی ان کا راستانہ روک سکا۔ پہاڑوں اور گھاٹیوں پر یہ جری سپاہ آگے بڑھتی ہی گئی۔ آخر ۲۰ جولائی کو انہوں نے ماؤکنگ کے زرخیز خطے میں ڈیرے جا ڈالے یہ بھی ایک انقلابی علاقہ تھا لیکن ان لوگوں کو تو اور آگے جانا تھا۔

پہلے کیانگسی کے پڑاوسے جو پہلی، تیسری، پانچویں، آٹھویں اور نویں فوجیں چلی تھیں۔ ان میں اب فقط ۴۵ ہزار آدمی رہ گئے تھے۔ باقی تمام ہلاک اور تباہ نہ ہوئے تھے بلکہ کچھ دستے ہر علاقے میں پیچھے چھوڑ دیئے جاتے تھے تاکہ کسانوں کو منظم کریں اور دشمن کو نقصان پہنچائیں۔ ہزاروں رائفلیں سر راہ اسی لیے لوگوں میں بانٹ دی گئی تھیں۔

راستے میں اس سپاہ نے بہت سے دوست بنائے تھے بہت سے دشمن۔ دشمن وہ جاگیردار اور سرمایہ دار جن سے انہوں نے رسد حاصل کی اور دوست وہ غریب جن کو انہوں نے مدد دی۔ فوج کی ضروریات سے فاضل تمام رسد لوگوں میں بانٹ دی جاتی تھی۔ جاگیرداروں کے قبائے تلف کر دیئے گئے ٹیکس اڑا دیئے گئے اور غریب کسانوں کو مسلح کر دیا گیا۔ کیانگسی سے چلتے ہوئے یہ فوج اپنے ساتھ کافی خزانہ لیے ہوتی تھی۔ جب کبھی کسانوں سے کچھ لیا جاتا اس کا معاوضہ بھی دیا جاتا تھا۔ وہ تو یہ جانتے تھے کہ یہ غریب آدمیوں کی فوج ہے۔

یہاں تین ہفتے آرام کرنے کے بعد انقلابیوں کی مجموعی سپاہ جو ایک لاکھ تھی۔ روانگی سے پہلے دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک نے شمال مغرب کا رخ کیا اور دوسرا زیچوان میں رہ گیا۔ اس وقت کچھ انقلابی اس خیال کے بھی حامی تھے کہ یہیں خود کو اور مستحکم کر کے یانگسی کے جنوب کے علاقہ پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن ماؤزے تنگ اور ان کے ہم خیال شمال مغرب کی طرف خروج کے حامی تھے۔

آخر اگست میں قافلہ سوئے شمال مغرب روانہ ہوا۔ لیکن کچھ فوج چوتہ کی کمان



میں زیچوان ہی میں چھوڑ دی گئی۔ خروج کرنے والی سپاہ کی کمان ماؤزے تنگ، لن پیاؤ، چو این لائی اور دوسرے کمانڈر کر رہے تھے یہ سپاہ تیس ہزار پر مشتمل تھی۔

اب اس سفر کا سب سے خطرناک علاقہ شروع ہوتا ہے۔ مانزو قبائل کی سرزمین اور مشرقی تبت کے خونخوار خانہ بدوشوں سی فان کی قلمرو۔ یہاں انقلابی فوج کو زبردست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے پاس روپیہ تھا لیکن اس سے خوراک نہ خرید سکتے تھے۔ بندوقیں تھیں لیکن کس پر چلاتے۔ دشمن سامنے نہ آتا تھا۔ گھات میں لگا رہتا تھا۔ جدھر یہ فوج جاتی لوگ بستیاں اجاڑ جاتے۔ ساری کھانے پینے کی چیزیں سمیٹ لے جاتے۔ مرغیاں، بٹنیں اور مویشی ہر چیز ہانک لے جاتے۔ اگر کوئی فوجی کسی بھیڑ کو پکڑنے کے لیے راستے سے ادھر ادھر ہوتا تو زندہ سلامت نہ واپس آتا جہاں کوئی ایسا درہ آتا جس میں دو چار سے زیادہ کے گزرنے کی گنجائش نہ ہوتی تو یہ لوگ اوپر سے چٹانیں لڑھکا دیتے۔ یہاں اس کا موقع ہی نہ تھا کہ کوئی ان پر واضح کرتا کہ وہ اور چینی ہیں جن سے تم ڈرتے ہو۔ یہ اور ہیں قبیلے کی ملکہ نے حکم دیا تھا کہ جو شخص ان لوگوں کی مدد کرے گا اسے دیگ میں ڈال کر اباں دیا جائے گا۔ ناچار یہاں ان لوگوں کو مجبوراً طاقت استعمال کرنی پڑی۔ یہاں کے شلجم ایسے بڑے بڑے تھے کہ ایک شلجم سے پندرہ آدمی پیٹ بھر لیں۔

اس کے بعد گھاس اور دلدلوں کی سرزمین شروع ہوئی۔ یہاں دور تک کوئی بستی دکھائی نہ دیتی تھی۔ بارش یہاں مسلسل تھی اور دلدلوں میں سے گزرنے کا تنگ راستہ فقط مقامی باشندوں کو معلوم تھا۔ یہاں بہت آدمی اور بہت مویشی دلدل کی نذر ہوئے۔ جہاں کسی کا پاؤں رپٹا وہ اندر ہی اندر دھنستا چلا گیا۔ یہاں جلانے کو لکڑی تک نہ تھی۔ کچی سبزی اور کچا اناج کھانا پڑتا تھا۔ پناہ کے لیے اونچے درخت نہ تھے۔ اور ان لوگوں کے پاس خیمے نہ تھے رات کو بس جھاڑیوں کے اوپری سرے باندھ کر یہ لوگ ان کی اوٹ اور پناہ میں بیٹھتے اور یوں اس امتحان سے بھی فاتحانہ گزر کر یہ

قافلے والے کانسو کے صوبہ کی سرحد پر جا اترے۔

دشمن کی فوجوں نے یہاں بھی راستہ روکا۔ یہاں بھی لڑائیاں لڑی گئیں۔ جن میں سے ایک میں ہارنا بھی مکمل شکست ثابت ہو سکتا تھا۔ لیکن انقلابی تمام گھیرے توڑتے گئے اور جب وہ ۱۲۰ اکتوبر ۱۹۳۵ء کو پورے ایک سال بعد دیوار چین کے دامن میں شمال شینسی میں جا کر اترے تو گننے پر معلوم ہوا کہ فقط بیس ہزار ہیں ان میں سے اکثر کے پاؤں راہ کی صعوبتوں سے سوجے ہوئے اور پتھر بنے ہوئے تھے لیکن دلوں میں عزم و ہمت کی جوت جل رہی تھی۔ یہ لانگ مارچ جو ایک شکست سے شروع ہوا تھا آنے والی بڑی اور مستقل فتح کا پہلا قدم ثابت ہوا۔ یہاں ینان کے غاروں میں ماؤزے تنگ نے اپنی طاقت کو مستحکم کیا۔ جاپانیوں کو ناکوں چنے چبوائے اور آخر میں سارے چین نے ان کی فاتحانہ یلغار کے قدم چومے۔

یہاں یہ داستان ختم ہوتی ہے۔  
ہمیں اپنے سفرنامے کے درمیان اس حکایت طویل و لذیذ کو اس لیے لانا پڑا کہ اس کے بغیر چین کے موجودہ حکمران انقلابیوں کی سخت کوشی کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ نئے چین کی پرانی نسل ہو یا نئی۔ اس مہم اور اس کے سانحات کی چھاپ سبھی کے ذہنوں پر ملے گی۔ اس واقعہ کے متعلق گیت بھی ہیں ڈرامے بھی، فلمیں بھی ناول اور کہانیاں بھی۔ سچ تو یہ ہے کہ ماؤزے تنگ اس مہیب مہم میں سے گزر کر ہی ماؤزے تنگ بنا۔ عوام کے دلوں کا حکمران جس کا کوئی حریف نہیں۔

## اخبار تو ہوتے ہیں لیکن خبریں نہیں

اخبار ہماری زندگی کا لازمہ بن گیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا اخبار نہ ہوتے تو ہم صبح صبح کیسے اٹھتے اور کیوں اٹھتے؟ ذاتی طور پر ہمارے علی الصبح اٹھ ساڑھے آٹھ بجے اٹھ بیٹھنے کی بڑی وجہ اخبار ہے۔ سنتے ہیں دیہات میں لوگ پرندوں کی ہوج سے بیدار ہوتے ہیں۔ لیکن اس شہر میں درخت کہا کہ ان پر پرندے بسیرا کریں۔ ان کی جگہ ہمارے ہاں سبزی والوں کی ہانکیں اور ڈبل روٹی مکھن والوں کی پکاریں ہیں۔ خیر مقصد دونوں کا لوگوں کی نیند میں خلل انداز ہونا ہے۔ اس وقت کو ہم اپنی زبان میں صبح کا ذب گردانتے ہیں۔ صبح صادق کا تعلق اخبار ہی سے ہے۔ جب ہم بستر پر پڑے پڑے، چادر منہ سے ہٹائے بغیر کھوے کے نیچے سے ہاتھ لے جا کر ٹٹولتے ہیں اور اخبار کا ورق ہاتھ میں آتا ہے تو سمجھ لیتے ہیں کہ آفتاب تازہ پیدا ہون لگتی سے ہوا۔ طوعاً و کرہاً ہی سہی لیکن اب اٹھنا چاہیے۔ بے شک ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں۔ جنہوں نے سچ مچ کا سورج طلوع ہوتے دیکھا ہے لیکن جس کے پاس اخبار ہوا سے سورج کی کیا پروا۔ اخبار لیا لوٹا اٹھایا اور پہنچ گئے خلا میں مدار پر۔

ہم جو چین گئے تو سب سے پہلا مسئلہ یہی پیدا ہوا۔ چین میں اخبار ہوتے تو ہیں لیکن چینی زبان میں اور وہ بھی شام کو نکلتے ہیں۔ صبح کو نکلتے تو کم از کم ان کی تصویریں دیکھنے کے ہاتھ روم جالیا جاسکتا تھا۔ نتیجہ اخبار نہ دیکھنے کا یہ ہوا کہ ہمارے ادیبوں کے وفد کے اکثر رکن قبض کا شکار ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے بہت دوائیں کیں۔ لیکن بے فائدہ آخر ہم نے کہا صاحب پی آئی اے والوں سے کہہ کر ان کے لیے اخبار منگانا شروع کیجئے۔ یہ وہ نشہ نہیں ہے جسے ترشی اتر اردے۔ یہ تو ہمارے میزبانوں کے بس کی بات نہ تھی کیونکہ ہوائی جہاز ہفتے میں فقط دو دن شنگھائی جاتا ہے ہاں چینی نیوز ایجنسی کا بلیٹن انہوں نے بھیجنا شروع کر دیا۔ اس سے صورت حال کی پوری طرح اصلاح تو نہ ہوئی لیکن بعضوں کا ہاضمہ پہلے سے بہتر ہو گیا۔

پیکنگ سے جو ہم وہاں روانہ ہوئے تو خبروں کے اس بلیٹن سے بھی مفارقت ہو گئی۔ آخر ہم نے اپنے ترجمان سے کہا کہ بھیا تم ہمیں اخبار کر سنایا کرو کیونکہ جن دنوں ہم روانہ ہوئے ہیں، افریقہ کے ملکوں میں ایک انقلاب روزانہ کی اوسط تھی بلکہ ایک روز تو دو دن کے عرصے میں تین انقلاب آئے تھے۔ انھوں نے کیا ایسا کوئی سانحہ اس دوران میں نہیں ہوا۔ ہم نے کہا اچھا پہلی سرخی پڑھو معلوم ہوا وزیر اعظم چو این لائی نے سامراجیوں کو خبردار کیا ہے۔ ہم نے کہا آگے بڑھو پتہ چلا آگے البانیہ کے صدر مملکت کا پیغام ہے۔ ہم نے کہا اور کوئی خبر ہے۔ بولے ہاں آپ لوگوں کے وہاں پہنچنے کی خبر ہے۔ ہم نے جھنجھلا کر کہا وہ تو ہمیں بھی معلوم ہے۔ خبر وہ ہوتی ہے جو ہمیں نہ معلوم ہو۔ کہیں چوری ڈکیتی، اغواء، آتش زنی کی خبر ہو تو سناؤ، اور نہیں تو کوئی ٹریفک کا حادثہ تو ہوا ہوگا۔ ترجمان نے سر ہلا کر کہا کہ اس قسم کی کوئی واردت آج کل یہاں نہیں ہوتی۔ ٹریفک کا حال آپ نے خود دیکھ لیا۔ کاریں خال خال ہیں اور وہ ڈرائیور لوگ احتیاط سے چلاتے ہیں کیونکہ شام کو انہیں اپنی سیٹھ کو کوئی بندھی ٹکی رقم نہیں دینی پڑتی اور بالفرض ایسا کوئی حادثہ ہو بھی جائے تو وہ خبر تھوڑا ہی ہوتی ہے؟ اس کا اخبار سے کیا تعلق؟

ہم نے کہا نخن شناس نئی حافظہ خطا اینجا ست۔ ان بے چاروں کو کیا معلوم کہ دوسرے ملکوں میں خبر کسے کہتے ہیں؟ یہاں تو اگر کہیں واردات ہو جائے تو ایک فرلانگ دور جس دودھ والے کی دکان ہے اس کی، اس کے بچوں، اس کے دور کے رشتہ داروں کی تصویریں اور سوانح چھپتے ہیں۔ باقی رہے سیاسی واقعات اور لیڈروں کی تقریریں۔ جن لوگوں کے پاس فالتو وقت ہوتا ہے۔ وہ ان پر بھی ایک غلط انداز نظر ڈال لیتے ہیں۔ ورنہ حادثوں کی خبریں اور تصویریں دیکھیں، آج کے فلمی اشتہارات پر نظر ڈالی۔ تاجر نے بونس واؤچر کا بھاؤ دیکھا، اور اسکول کے لڑکے نے کھیلوں کا صفحہ نکال لیا۔ کوئی بڑے میاں ہوئے تو جاندادوں اور ضرورت رشتہ کے



استعارات بھی سہی باقی بس۔



ختم شد ----- The End

